

مجموعه
وظائف شریفہ
مترجم مع اسناد

باجلات

حضرت پرنسزنا شاہ عبدالحمق شاہ صاحب مدظلہ العالی
استاذ عالیہ گولڑہ شریف

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

مصنوعه
وظائف حسنة
مترجم مع اسناد

باجازت

حضرت پیرزادہ شاہ عبدالحق شاہ صاحب مدظلہ العالی
استاذ عالیہ گولڑہ شریف

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بار _____ چہارم

تعداد _____ چار ہزار

مقام اشاعت _____ گولڑا شریف ضلع سلام آباد

کاتب _____ خوشی محمد ناصر خوش رقم تلمیز پر ہیں رقم

تاریخ اشاعت _____

شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ / ستمبر ۲۰۰۵ء

مطبع :- پرنٹنگ پروفیشنلز لاہور فون :- ۷۵۵۳۷۱۱

ہدیہ :- =/۳۵ روپے

اسماء الحسنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

هُوَ الَّذِیْ لَا یَلٰہُ اِلَّا ہُوَ

وہ اللہ ہے جس کے سوا ہند کسی نہیں کسی کی

الرَّحْمٰنُ جَلَّ جَلَالُهُ الرَّحِیْمُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمَلِکُ جَلَّ جَلَالُهُ الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ

بڑا مہربان، بڑی شان ہے اس کی نہایت رحم والا بڑی شان ہے اس کی بادشاہ اور پادشاہ کا بلند ہے شان اس کی بہت پاک بزرگ ہے بزرگی اس کی

السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُہِیْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ الْعَزِیْزُ جَلَّ جَلَالُهُ

سلامت رکھنے والا امن دینے والا نگہبان غالب ہے مانند

الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ الْبَارِئُ جَلَّ جَلَالُهُ

لغصان کا پورا کرنے والا بزرگ ہے مانند پیدا کرنے والا سب چیزوں کا پیدا کرنے والا خلق کا

الْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ الْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ الْوَهَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ

صورت بنانے والا خلق کا بخشنے والا گناہ کا عناب ہر چیز پر بہت دینے والا بغیر عوض کے

الرِّزَّاقُ جَلَّ جَلَالُهُ الْفَتَّاحُ جَلَّ جَلَالُهُ الْعَلِیْمُ جَلَّ جَلَالُهُ الْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهُ

رزق دینے والا کھولنے والا کاموں کا جاننے والا ہر چیز کا تنگ کرنے والا روزی اور دل کا

الْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ الْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهُ الرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ الْعِزِّزُ جَلَّ جَلَالُهُ

کھولنے والا دل اور روزی کا پست کرنے والا بلند کرنے والا اور چمکندوں کے عزت دینے والا

الْمُذَلُّ جَلَّ جَلَّالَهُ السَّمِيعُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْحَكَمُ جَلَّ جَلَّالَهُ

خوار کرنے والا بڑی شان والا ہے نیٹ سننے والا بڑی شان والا ہے دیکھنے والا بڑی شان والا ہے حکم کرنے والا بڑی شان والا ہے اس کی

الْعَدْلُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْلَطِيفُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْخَيْرُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَّالَهُ

عدل کرنے والے بندوں کے باریک بین دور سے خبردار ہر چیز کے بروباری کرنے والے

الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْغَفُورُ جَلَّ جَلَّالَهُ الشُّكُورُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْعَلِيُّ جَلَّ جَلَّالَهُ

بزرگ تر ذات اور صفاتیں بخشنے والا قدردان شکر کرنے والے کا بلند مرتبہ

الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْحَفِيفُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمُقِيتُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْحَسِيبُ جَلَّ جَلَّالَهُ

بڑا سب سے نگاہ رکھنے والا خلق کا قوت دینے والا حساب کرنے والا

الْمَجِيلُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَّالَهُ الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمَجِيبُ جَلَّ جَلَّالَهُ

بزرگ قدر بہ پروا بخشش کرنے والا نگاہ رکھنے والا خلق کا قبول کرنے والا دعا کا

الْوَاسِعُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْوَدُودُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمَجِيدُ جَلَّ جَلَّالَهُ

وسعت دینے والا سنوار کار اور درست گفتار بہت دوست رکھنے والا بزرگ

الْبَاعِثُ جَلَّ جَلَّالَهُ الشَّهِيدُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْحَقُّ جَلَّ جَلَّالَهُ الْوَكِيلُ جَلَّ جَلَّالَهُ

اٹھانے والا حاضر ثابت کار ساز

الْقَوِيُّ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمَيِّتُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْوَلِيُّ جَلَّ جَلَّالَهُ الْحَمِيدُ جَلَّ جَلَّالَهُ

قوت دینے والا مضبوط دوست مومنوں کا تعریف کرنے والا ذات اپنی کا

الْمُحْصِيُّ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمُبْدِيُّ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمَعِيدُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمُجِيبُ جَلَّ جَلَّالَهُ

احاطہ کرنے والا پیدا کرنے والا پیدا کرنے والا دوسری بار زندہ کرنے والا

الْمُيِّتُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْحَيُّ جَلَّ جَلَّالَهُ الْقَيُّومُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْوَاحِدُ جَلَّ جَلَّالَهُ

مارنے والا زندہ قائم رکھنے والا غنی بے پرفا

الْمُتَّحِدُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْوَاحِدُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْاَحَدُ جَلَّ جَلَّالَهُ الصَّمَدُ جَلَّ جَلَّالَهُ

صاحب بزرگ یکتا ذات اپنی میں ایک بے پروا

الْقَادِرُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَّالَهُ الْمُؤَخَّرُ جَلَّ جَلَّالَهُ

قدرت والا ہر چیز پر قدرت ظاہر کرنے والا آگے دینے والا رسولوں کا پیچھے ڈالنے والا دشمنوں کا

الْأَوَّلُ جَلَّ جَلَّاءُ الْأَخِرُ جَلَّ جَلَّاءُ الظَّاهِرُ جَلَّ جَلَّاءُ الْبَاطِنُ جَلَّ جَلَّاءُ

پہلا سب سے بڑی شان ہے اس کی پیچھے سب سے بڑی شان ہے اس کی ظاہری صفات میں ہند شان ہے اس کی پرشیدہ و مخیاں سے بڑی شان والا

الْوَالِيُّ جَلَّ جَلَّاءُ الْمُتَعَالَى جَلَّ جَلَّاءُ الْبَرُّ جَلَّ جَلَّاءُ الثَّوَابُ جَلَّ جَلَّاءُ

مالک کا رشتہ بہت بلند نیس کو کار قبول کرنے والا توبہ کا

الْمُنْتَقِمُ جَلَّ جَلَّاءُ الْعَفْوُ جَلَّ جَلَّاءُ الرَّؤْفُ جَلَّ جَلَّاءُ مَالِكُ الْمَلِكِ جَلَّ جَلَّاءُ

بدلہ لینے والا کافروں سے معاف کرنے والا بہرمان مالک و وہاں کا

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلَّ جَلَّاءُ الْمُقْسِطُ جَلَّ جَلَّاءُ الْجَامِعُ جَلَّ جَلَّاءُ

صاحب بڑی بخشش اور بزرگی والا انصاف کرنے والا جمع کرنے والا لوگوں کا قیامت کن

الْغَنِيُّ جَلَّ جَلَّاءُ الْمَعْنَى جَلَّ جَلَّاءُ الْمَاعِ جَلَّ جَلَّاءُ

بے پروا بے پروا کرنے والا دینے والا منع کرنے والا

الضَّارُّ جَلَّ جَلَّاءُ النَّافِعُ جَلَّ جَلَّاءُ النُّورُ جَلَّ جَلَّاءُ الْهَادِيُّ جَلَّ جَلَّاءُ

ضرر پہنچانے والا نفع پہنچانے والا روشنی بخشنے والا راہ دکھانے والا

الْبَدِيْعُ جَلَّ جَلَّاءُ الْبَاقِيُّ جَلَّ جَلَّاءُ الْوَارِثُ جَلَّ جَلَّاءُ الرَّشِيْدُ جَلَّ جَلَّاءُ

پیدا کرنے والا چیزوں کا بغیر نمونہ کے ہمیشہ رہنے والا رہنے والا بعد فنا خلق کے ہر سنا عالم کا

الصَّبُورُ جَلَّ جَلَّاءُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

برو بار وہ ذات کہ نہیں اس کے مانند کوئی اور وہ

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ غَفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِيَّاكَ الْمَصِيْرُ جَلَّ جَلَّاءُ

سنانے والا دیکھنے والا تیری بخشش چاہنے والے رب ہمارے اور تجھی تک رجوع ہے

نِعْمَ الْمَوْلَى جَلَّ جَلَّاءُ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ جَلَّ جَلَّاءُ سَمِيْعٌ جَلَّ جَلَّاءُ بَصِيْرٌ جَلَّ جَلَّاءُ

کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے سنانے والا دیکھنے والا

عَلِيْمٌ جَلَّ جَلَّاءُ قَدِيْرٌ جَلَّ جَلَّاءُ مَرِيْدٌ جَلَّ جَلَّاءُ مُتَكَلِّمٌ جَلَّ جَلَّاءُ

جاننے والا قدرت والا ارادے والا کلام کرنے والا

اسناد لمعش التوحید

شیخ مفسر عالم مقدم اہل سلوک مرشد السالکین قطب المحققین شیخ شہاب الدین سہروردی
 و شیخ شہید المظلوم شہاب الدین مقتول و محمد بن اسرار الدین السکاکی رحمہم اللہ تعالیٰ و جملہ بزرگان کہ
 بوده اند حالاً نام ایشان درین عالم است بزرگی ایشان از برکت بزرگواری این آیات بوده است
 و این آیات مناسب احوال جمیع خلایق است۔ اما از فاسقان و فاجران و مردان دون بہمت کہ
 آیات کلام ربانی بکارهای حُب و بغض و محبت و نسبت مسلمانان بسیار نمایند و بکارگردن مخفی
 باید داشت۔ و این آیات را در اوقات شریفہ و محبت ہم پاک مشک و زعفران و گلاب و حریر
 زرد نوشتہ نگار دارند۔ چون احتیاج شود بر مصروع بنزند۔ صحت شود و بر عورت حاملہ فروراند
 باسانی نجات یابد و ہر خستہ کہ حامل گردد نیکو شود و ہر مسموم کہ بردارد از غم خلاص گردد و
 ہر لشکر کہ باشد ہر چند کہ کم باشد بر غلبہ غالب آید و کاروان کشتی باشند از زو و حرامی و غرق شدہ
 و سوختن امان یابد و ہر درویش کہ بان خود دارد تو نگردد و ہر سبہ کہ بان خود دارد آزاد شود و ہر مومن
 کہ بصدق تمام بخواند بر تہ ولایت رسد۔ اگر سالہا در وصف و شرح این آیات عمر بسر بریم
 تا ہم با تمام نرسد۔ آیات محکوم و معظّم این است :-

(خلاصہ) ترجمہ :

یہ آیات مبارکہ توحید باری تعالیٰ کے متعلق ہیں۔ ان کا صدق دل سے پڑھنا
 موجب اجر عظیم ہے۔ مشک و زعفران سے لکھ کر پاس رکھنا موجب خیر و برکت و دفع امراض ہے
 بشرطیکہ پاس رکھنے والا ادب و احترام سے رکھے۔

لَبَعَةُ التَّوْحِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

اللہ ان سے ٹھٹھا فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اورس کا قائم رکھنے والا ہے اُسے نہ اونگھ آتے

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ

اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کون

ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے بے اس کے حکم سے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر وہ جتنا

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ

چاہے اس کی کرسی میں سلتے بڑتے ہیں آسمان اور زمین اور اُسے بھاری نہیں

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑا والا اللہ والی ہے

أَمَّنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

مسلمانوں کا انہیں اندھیریوں میں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور

كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لَا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

کافروں کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیریوں

۷/۲۵۷
إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں انھیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ○ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

اللہ ہے جس کے ہوا کوئی معبود نہیں زندہ اور اولوں کا قائم رکھنے والا اس نے تم پر سچی کتاب

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَ

اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے اور اس نے اس سے پہلے

الْإِنْجِيلَ ○ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ○

توریت اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھائی اور فیصلہ اتارا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ○

بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ○ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ○

اور اللہ عنایت بدلہ لینے والا ہے اللہ ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں

لِيَجْزِيَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ○ وَمَنْ

اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں اور

أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ○ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ

اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا

يَغْيُرُ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ

بے ان ستونوں کے کہ تم دیکھو پھر عرش پر استوا فرمایا (جیسا اس کی شان کے

الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ

لائی ہے) اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک ایک بھراتے ہوئے وعدہ تک چلتا ہے اور کام کی

الْأَمْرِ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ○

تدبیر فرماتا ہے اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَ

اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور

مَا تَزِدَادُ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِهِ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ

بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے ہر پہنچنے اور

وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

کھلے کا جاننے والا ہے سب سے بڑا بلسندی والا اللہ جس کے لیے چاہے رزق

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝ وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا

کشاہ اور تنگ کرتا ہے اور (کافر) دنیا کی زندگی پر اترا گئے ہیں اور

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ الْأَمْتَاعِ ۝ اللَّهُ الَّذِي

دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا اللہ ہے جس

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ

تر اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے اور تمہارے لیے

الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ

کشتی کو سخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور تمہارے لیے

الْأَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۝

ندیاں سخر کیں اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں

وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا

اور تمہارے لیے رات اور دن سخر کیے اور تمہیں بہت کچھ

سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ

مُنہ مانگا دیا اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے بے شک

الْإِنْسَانَ لظُلُومٌ كَفَّارًا ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ

آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکر ہے اللہ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسی

الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ۝ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کے لیے ہیں سب اچھے نام اللہ تم میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن

فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

جس بات میں اختلاف کر رہے ہو کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے

مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۙ

جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے بے شک

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۗ أَلَمْ يَصْطَفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

یہ اللہ پر آسان ہے اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول

وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۙ بَصِيرٌ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ

اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ سننا دیکھتا ہے اللہ نازل ہے آسمانوں

وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ مُّبِينٍ ۙ كَيْفَ تُنَادَىٰ فِيهَا صَاحٌ ۙ

اور زمین کا اُس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اُس میں چراغ ہے

الْبُصْبُوحُ فِي نُرَجَابَةٍ ۙ الرَّجَابَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ

وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موی سا چمکتا

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا

روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پُورب کا نہ

غَرْبِيَّةٍ ۙ لَّا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّهُ ۙ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۙ

پچھتم کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اُٹھے اگرچہ اُسے آگ نہ پھوٹے

نُورًا عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۙ وَيَضْرِبُ

نور پر نور ہے اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ

اللَّهُ الْأَمْتَالُ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ أَلَمْ تَرَ

مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۗ أَلَمْ يَبْسُطْ

کہ اُس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ بڑے عرش کا مالک ہے اللہ کشادہ کرتا ہے

الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۙ وَيَقْدِرُ لَهُ ۙ إِنَّ

رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور تنگی کرتا ہے بے شک

اللَّهُ ذِكْرٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بناتے گا

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

پھر اُس کی طرف پھر دے گا اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی

ثُمَّ يُيَسِّرُكُمُ اللَّهُ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ۝ هَلْ مِنْ شَرِكَاكُمْ مَن يَفْعَلُ

پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان

مِنْ ذَلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ يَّسْتَحْنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ اللَّهُ

کاموں میں سے کچھ کرے پاکی اور برتری ہے اُسے ان کے شرک سے اللہ ہے

الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا يَّبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ

کہ بھیجتا ہے ہوا میں کہ ابھارتی ہیں بادل پھر اُسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں

كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَيُرَاوِدُ فَيُخْرِجُ مِنْ خِلَالِهِ

جیسا چاہے اور اُسے پارہ پارہ کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میٹھے نکل رہا ہے

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

پھر جب اُسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے جیسی وہ خوشیاں مناتے ہیں

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ

اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا پھر تمہیں ناتوانی سے

قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ

طاقت بخشتی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا بناتا ہے

مَا يَشَاءُ ۝ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

جو چاہے اور وہی علم اور قدرت والا ہے اللہ ہے جس نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں بناتے پھر

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۝ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

عرش پر استوا فرمایا اُس سے چھوٹ کر (اُس کی اجازت بغیر) تمہارا کوئی طاقتی ہے اور نہ

شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ

سفارشی تو کیا تم دھیان نہیں کرتے اللہ نے اتاری سب سے بھی کتاب

كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہرے بیان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ

بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں یا بخدا کی

ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدًى لِّلَّذِينَ يَشَاءُونَ وَرُحْمًا

طرف رغبت میں یہ اللہ کی ہدایت ہے راہ دکھائے اس سے جسے چاہے اور جسے

يُضِلُّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ

اللہ گمراہ کرے اُسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے

حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي

ان کی موت کے وقت اور جو نہ مریں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم

قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝

فرمایا اُسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک ميعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ

بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے

شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے اللہ ہے جس نے تمہارے

لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

لیے رات بنائی کہ اُس میں آرام پاؤ اور دن بنایا آنکھیں کھولنے والا بے شک اللہ

لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن لوگ شکر نہیں کرتے

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَ

اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھکانہ بنائی اور آسمان چھت اور

صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ

اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں بھی بنائیں اور تمہیں ستھری چیزیں روزی دیں یہ ہے

اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝^{۲۰/۲۱} اللَّهُ رَبُّنَا

اللہ تمہارا رب تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا اللہ ہمارا اور تمہارا

رَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ

سب کا رتبہ ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا کیا کوئی حجت نہیں ہم میں اور

بَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝^{۲۲/۱۵} اللَّهُ الَّذِي

تم میں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے اللہ ہے جس نے

أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ

حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو اور تم کیا جانز شاید

السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝^{۲۲/۱۶} اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ

قیامت قریب ہی ہے اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہتا ہے روزی

يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝^{۲۲/۱۷} اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ

دیوتا ہے اور وہی قوت والا ہے غالب اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں

الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ يَا مَعْرُوهٌ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝^{۲۵/۱۲} اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ

اور اس لیے کہ حق مانو اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اللہ ہی پر

فَلْيَتَّوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝^{۲۷/۱۳} اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

ایساں والے بھروسہ کریں اللہ ہے جس نے سات آسمان بنائے

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا

اور انھی کے برابر زمینیں حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ

کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو

شَيْءٍ عِلْمًا ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۝

مَحْطٌ ہے اللہ بے نیاز ہے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ

اِس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے اللہ ، اِس کے سوا کوئی

إِلَهٌ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ الْمَلَأَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

معبود نہیں وہ آپ زندہ اور رسول کا قائم رکھنے والا ہے اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں

الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ

آپ زندہ اور رسول کا قائم رکھنے والا وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی

يَشَاءُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ شَهِدَ

چاہے اِس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا اللہ نے گواہی

اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

دی کہ اِس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علموں نے

قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ اللَّهُ

انصاف سے قائم ہو کر اِس کے سوا کسی کی عبادت نہیں وہی ہے عزت والا حکمت والا اللہ کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْزِيَ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ ۝ ذَلِكُمْ

اِس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور وہ ضرور اکتھا کرے گا قیامت کے دن یہ ہے

اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝ فَاعْبُدُوهُ ۝

اللہ تمہارا رب اِس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کا بنانے والا تو اسی کی عبادت کرو

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ

اِس پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اِس کے سوا کوئی معبود نہیں اور

عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝ الَّذِي

مشرکوں سے منہ پھیر لو میں تم سب کی طرف اِس اللہ کا رسول ہوں کہ

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اِس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ کرنا ہے اور

يُمِيتُ ۝ وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَأَ

ماتے اور انہیں یہ حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں اس کے

إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ

سوا کسی کی بندگی نہیں وہ منزہ ہے ان کے شرک سے پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرمادو

حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا آدَرَاكُهُ الْغُرُقُ قَالَ أَمْنْتُ

عرش کا مالک ہے یہاں تک کہ جب اُسے ڈوبنے لگا آیا بولا میں ایمان لایا

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا

کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اُس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے اور میں

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا

ہوں فرمانبرداروں میں تو اے مسلمانو! اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ

أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ لَأِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

وہ اللہ کے علم ہی سے اُترتا ہے اور یہ کہ اُس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو کیا اب تم مانو گے؟

وَهُوَ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۖ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں تم فرمادو وہ میرا رب اُس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۝ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنی اجازت

أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْزِلُوا إِلَهُ لَأِلَٰهَ

سے اپنے بندوں پر چاہے اُتاتا ہے کہ ڈرناؤ کہ میرے سوا کسی کی

إِلَٰهَ أَنَا فَاتَّقُونِ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ

بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو اللہ اُس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسی کے ہیں سب

الْحُسْنَىٰ ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۚ إِنَّنِي

اچھے نام اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے بے شک میں

أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴿٢١/٢٣﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ

ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٢١/٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے اور ہم نے تم سے

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود

أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢١/٢٥﴾ وَذُؤَانُونَ ﴿٢١/٢٥﴾ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ

نہیں تو بھی کو پڑجو اور ذؤانوں کو (یاوکرو) جب چلا غصے میں بھرا ہوا تو گمان کیا

أَنْ لَّنْ نَقْتِدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اندھیروں میں پکارا کہ کوئی معبود نہیں میرے

أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢١/٢٦﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ

سوا پاک ہے تو بے شک مجھ سے بے جا ہوا تو اللہ بہت بلندی والا ہے

الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿٢٢/١١٧﴾

سچا بادشاہ کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٤/٢٤﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ

اللہ ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہ بڑے عرش کا مالک ہے اللہ ہے کوئی معبود نہیں

إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ﴿٢٤/٢٥﴾ وَكَهُ الْحُكْمُ

اس کے سوا اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں اور اسی کا حکم

وَأِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿٢٤/٢٦﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَّا إِلَهُ

اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پڑجو اس کے سوا

إِلَّا هُوَ قَدْ كَفَىٰ بِشَيْءٍ هَالِكٍ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿٢٥/٢٦﴾ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

کوئی خدا نہیں ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف

تَرْجَعُونَ ﴿٢٥/٢٧﴾ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْسُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ

پھر جاؤ گے کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق بھی ہے کہ آسمان اور زمین میں سے

الْأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذْ أُقِيلَ لَهُمْ لَا

تھیں دڑی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكْبِرُونَ ۝ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ

کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اڑتے تھے یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کی

الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ فَأَنى نَصْرُونَ ۝ شَرِيدَ الْعِقَابِ

بادشاہی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں پھر کہاں پھیرے جاتے ہو سخت عذاب کرنے والا

ذِي الصُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ ذَلِكُمْ اللَّهُ

بڑے انعام والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھرنا ہے وہ ہے اللہ

رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ فَأَنى تُؤْفَكُونَ ۝

تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو کہاں اونٹھے جاتے ہو؟

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝

وہی ہے زندہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اُسے پوجو اسی کے حق اللہ بندے ہو کر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ

سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں وہ زندہ کرتے اور

يُمِيتُ ۝ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ فَاعْلَمْنَا أَنَّهُ

مارے وہ تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے تو جان لو کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ

اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اے مجرب اپنے اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے

الْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝ هُوَ اللَّهُ

گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام کرنا وہی ہے اللہ

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝ هُوَ

جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر نہاں عیاں کا جاننے والا وہی ہے

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

بڑا مہربان رحمت والا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ

الْقُدُّوسُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

نہایت پاک اللہ اس بن کسی کی بندگی نہیں اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں

الْمُؤْمِنُونَ ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ایمان والے وہ پورب اور پچھم کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

تم تو اسی کو کارساز بناؤ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے تم

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے اور والوں کو جو

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

بے دیکھے ایمان لاتیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے

يُنْفِقُونَ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ہماری راہ میں خرچ کریں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے اللہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۝

جس کے سوا کوئی معبود نہیں آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا اس نے تم پر سچی کتاب اتاری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلَ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے اس کے لئے محبوب! ایک کتاب

إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَ

تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ ڈرے اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور

ذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

مومنین کو نصیحت اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

الْمَرَاتِفِ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۝ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

الترجمہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب

سَّرَّ بِكَ الْحَقُّ ۝ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ بِسْمِ اللَّهِ

کی طرف سے آراحق ہے مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے اللہ کے نام سے شروع

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَهَيْعَتِهِ ۱۹۱ ﴿۱۹۱﴾ ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَبِّكَ

جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہنیچھن یہ مذکور ہے تیسرے رب کی اُس رحمت کا

عَبْدًا نَزَّكَرًا يَا ۱۹۲ ﴿۱۹۲﴾ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۱۹۳ ﴿۱۹۳﴾

جو اُس نے اپنے بندے ذکر یا پر کی جب اُس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط ۱۹۴ ﴿۱۹۴﴾ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے ط ۱۹۴ ﴿۱۹۴﴾ اے محبوب! ہم نے یہ ستران تم پر

الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی ۱۹۵ ﴿۱۹۵﴾ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰی ۱۹۶ ﴿۱۹۶﴾ تَنْزِيْلًا

اس لیے نہ انا کہ تم مشقت میں پڑو ہاں، اُس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہے اُس کا انا پڑنا

مِمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی ۱۹۷ ﴿۱۹۷﴾ بِسْمِ اللّٰهِ

جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اللہ کے نام سے شروع

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط ۱۹۸ ﴿۱۹۸﴾ قَفَّ يَتْلُكَ اٰیٰتِ الْقُرْآنِ

جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے ط ۱۹۸ ﴿۱۹۸﴾ یہ آیتیں ہیں ستران

وَكِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ۱۹۹ ﴿۱۹۹﴾ هُدًى وَّبُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۲۰۰ ﴿۲۰۰﴾ بِسْمِ

اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو اللہ کے نام سے

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط یٰس ۲۰۱ ﴿۲۰۱﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِیْمِ ۲۰۲ ﴿۲۰۲﴾

شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے یٰس حکمت والے قرآن کی قسم!

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۲۰۳ ﴿۲۰۳﴾ عَلٰی صِرٰطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۲۰۴ ﴿۲۰۴﴾

تو شک تم بھیجے ہو توں سے ہو سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط ص ۲۰۵ ﴿۲۰۵﴾ وَالْقُرْآنِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے ص اس نامور

ذِی الذِّكْرِ ۲۰۶ ﴿۲۰۶﴾ بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۲۰۷ ﴿۲۰۷﴾

قرآن کی قسم! بلکہ کافر تکبر اور حنلاف میں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط حم ۲۰۸ ﴿۲۰۸﴾ تَنْزِیْلٍ مِّنْ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے حم یہ انا ہے

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲۱﴾ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

بڑے رسم والے مہربان کا ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئی ہیں عربی قرآن

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲۳﴾

عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رسم والا ہے حمد

عَسَىٰ ﴿۲۴﴾ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ

عسے ہوگی وحی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے انگوں کی طرف

اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۵﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

ق ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿۲۶﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ

قرآن کی قسم! بلکہ انھیں اس کا تعجب ہوا کہ ان کے پاس انھیں

مُنذِرًا مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿۲۷﴾

میں کا ڈر سنانے والا تشریف لایا چنانچہ کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط وَالْقَلَمِ وَمَا

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رسم والا ہے ق قسم اور اس کے

يَسْطُرُونَ ﴿۲۸﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿۲۹﴾ وَإِنْ

لکھنے کی قسم! تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور

لَكَ لَا بَحْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿۳۰﴾

تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔

هَذَا الدُّعَاءُ الْكَبِيرُ

یہ دعاء کبیر ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا حَيُّ ۞ يَا قَيُّوْمُ ۞ يَا ذِيْجَلَّتْ سِدْرَتُهُ عَنِ الْمَرْءِ الْمُبِينِ ۞

اے زندہ! جبکہ کوئی زندہ نہ ہوگا اپنی ہمیشگی پادشاہی اور

بِقَائِهِ ۞ يَا حَيُّ ۞ يَا قَيُّوْمُ ۞ يَا اَللّٰهُ ۞ يَا

بقائت میں اے زندہ! اے قائم! اے اللہ! اے

رَحْمٰنُ ۞ يَا رَحِیْمُ ۞ يَا مَلِكُ یَوْمِ الدِّیْنِ ۞ اِيَّاكَ

برٹے مہربان! اے نہایت رحم والے! اے مالک روز جزا کے! ہم خاص تیری

نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۞ يَا حَيُّ ۞ يَا قَيُّوْمُ ۞

عباد کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اے زندہ! اے قائم!

يَا اَللّٰهُ ۞ يَا رَبُّ ۞ اُوَامٌ ۞ هُوَامٌ ۞ رَهْمٰنٌ ۞

اے اللہ! اے پروردگار! اے

نَسْرِیْنَ بِرِیْنِ ۞ اِیُّ ۞ بِرْمٌ ۞ هَسَا ۞ اُوَامٌ ۞

اَنَّمُو ۞ مَجْرَانِيَه ۞ مَلِيكَه ۞ اَمَلِيكَه ۞ اَدَابَه ۞ اَمْهَابَه ۞

وَارِيْسَا ۞ اَشْمَنَكَا ۞ فَجْرٌ وَمَنَكَا ۞ وَشَبِيكِي ۞ وَاِرِي ۞ اُوْرِيَا ۞

اَمْرُو ۞ كَلَامَا ۞ مَلُوْكَا ۞ اَسْمِيْنَ ۞ اَشْجِيْنَ ۞ كَتَانَه ۞

بَهَانَه ۞ مَهَابَه ۞ هِيَه ۞ دَرَانَكَه ۞ سَلْكَاكَه ۞

وَسَلْكَهَاكَه ۞ وَيَلْكَاكَه ۞ وَيَلْكَهَاكَه ۞ وَاَجَلٌ ۞

لے یہ اسماء و الفاظ عبرانی زبان میں ہیں چونکہ بزرگان دین کے معمولات سے ہیں لہذا تبرکاً پڑھے جاتے ہیں۔

مِرَايَا ۞ خِرَايَا ۞ هَمْتَايَا ۞ شَايَا ۞ وَنَشِيكَا ۞ وَنَشِيكِي ۞

يَا دِرَايُوِيَا ۞ يَادِرِي ۞ وَأَنَا هِيَا ۞ وَمِنِيَا ۞ يَا مَلِكِنَا ۞

شَيْبِنَه ۞ كَهَه ۞ كَه ۞ هَمَه ۞ هَمَه ۞ مَتَه ۞

وَتَه ۞ كَتَه ۞ نَشْتَنَه ۞ شَيْنِنَه ۞ عَنِينَه ۞ مُلَطَه ۞

وَطَه ۞ وَتَهِيَا ۞ حَيَايَا ۞ مَتَايَا ۞ وَادِي ۞ يُوُدِي ۞

كِدِي ۞ كِيدِي ۞ فَشَايَا ۞ فَشَايَا ۞ بِمَطَايَه ۞ مَرْنَا ۞

شَمِينِي ۞ مَلُوي ۞ مَتَا ۞ مَطْنَا ۞ مَضَا ۞ دِيُوَه ۞ أَخِيئَه ۞

شَنَكَه ۞ خِيك خِيك ۞ جَرَا ۞ جَرَايَا ۞ اِكْرَا ۞ اِكْرَايَا ۞

بَر ۞ بَرَايَا ۞ مِرَايَا ۞ كِرَايَا ۞ شَمَنِي ۞ فَجُرُويَا ۞

شَهِيَا ۞ وَارْتِبَا ۞ شُوبَه ۞ جَرِبَه ۞ وَمَنَا ۞ خَزَنَا ۞

عَزَنَا ۞ مَكَنَا ۞ مَهَنَابَه ۞ دِيُوَه ۞ دِرِيَا ۞ شَنَا ۞

فَشَايَا ۞ وَنَشِينَا ۞ مَرِينَا ۞ عَمَنَا ۞ شَمَنَا ۞

كَمَنَا ۞ فَتَلِيخَه ۞ وَمَا طَلِي ۞ كَانِي ۞ حُونِي ۞ جُرْنِي ۞

مَرُوتَا ۞ ثَبُوتَا ۞ لُوسَا ۞ مُقَدَّسَا ۞ سَرَّاسَا ۞ هِيرِيَا ۞

هَبْتَه ۞ شَادِي مُنَادِي ۞ فَرْد ۞ فَرَايَا ۞ شَايَه ۞ هَايَه ۞

دِيُوَه ۞ پَرِيَا ۞ ظَفِيكِرَا ۞ حَوَا ۞ اَكْفِيئَنَا ۞ قَمُطُوشَا ۞

قَمُطُوشَا ۞ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞

اوراد الاسبوع الشریف

لسیدنا الغوث الاعظم

ابی محمد عبدالقادر جیلانی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ورد روز یک شنبہ (اوار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْجَمِیْلُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ❖

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی مسجود برحق نہیں مگر وہی ہے بزرگ بڑا مہربان نہایت رحم والا

اللّٰطِیْفُ ❖ الْجَلِیْمُ ❖ الرَّءُوْفُ ❖ الْعَفُوْفُ ❖ الْمُؤْمِنُ ❖

نُطْفِی کر نے والا صاحبِ جسم مہربان معاف کرنے والا امن دینے والا

النَّصِیْرُ ❖ الْمُجِیْبُ ❖ الْمُغِیْثُ ❖ الْقَرِیْبُ ❖ السَّرِیْعُ ❖

مددگار دُعائیں قبول کرنے والا فریاد سننے والا نزدیک جلدی حساب لینے والا

الْكَرِیْمُ ❖ ذُو الْاَكْرَامِ ❖ ذُو الطَّوْلِ ❖ رَبُّ الْاَسْنِیْنِ ❖

کرم کرنے والا صاحبِ اکرام صاحبِ شمت اے پروردگار میرے! مجھے

جَمَالٍ بَدِيعِ الْأَنْوَارِ الْجَمَالِيَّةِ مَا يُدْهِشُ أَبْوَابَ الذَّمِّاتِ

یسے جمال بدیع الانوار کے لباس خوبصورت پہنا جو اپنی روشنی سے پیدا نشی ذرات کے

الْكُونِيَّةِ فَتَتَوَجَّهُ إِلَى حَقَائِقِ الْمَكُونَاتِ تَوَجُّهُ الْمَحَبَّةِ

دروازے بند کریں یعنی تمام اندھیرے مجھ سے دور ہو جائیں پس حقائق کائنات کے مجھ پر ذاتی محبت

الذَّائِيَّةِ الْجَاذِبَةِ إِلَى شَهْوٍ مُطْلِقِ الْجَمَالِ الَّذِي لَا يُضَارُهُ

مطلق جمال کے شہو کی طرف کھینچنے والے مجھ پر توجہ کریں وہ جمال کہ جس کو کوئی کلنگ نہیں

قُبْحٌ وَلَا يَقْطَعُ عَنْهُ إِيلَامٌ وَأَجْعَلْنِي مَرْحُومًا مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ

لگتا اور نہ اس سے کبھی خوشی منقطع ہوتی ہے اور مجھے ہر ایک رحمت سے مرحوم کر

بِحُكْمِ الْعَطْفِ الْجَبِّيِّ الَّذِي لَا يَشُوبُهُ انْتِقَامٌ وَلَا يَنْقُصُهُ

ساتھ حکم اس محبت والی مہربانی کے جس میں کوئی انتقام کا شائبہ نہیں اور نہ اس کو کوئی غضب

غَضَبٌ وَلَا يَقْطَعُ مَدَدَهُ سَبَبٌ وَتَوَلَّ ذَاكَ بِحُكْمِ اِبْدِيَّةِ

ناخوش کرتا ہے اور نہ اس کی باوری کوئی سبب کاٹ سکتی ہے اور اس بات کی کار سازی اپنی ابدیت

وَارِثِيَّتِكَ إِلَى غَيْرِنِهَايَةِ لَا تَقْطَعُهَا غَايَةُ يَا رَحِيمٌ هُوَ

اور اپنے لاناہیت دوام اور ہمیشگی کے ہمراہ کہ جس کو کوئی حد ختم نہیں کرتی اے نہایت مہربان! تو وہی

الرَّحِيمُ رَبَّاهُ رَبَّاهُ هُوَ تَاهُ يَا خَفِيًّا لَا يَطْهَرُ يَا

مہربان ہے جو قیامت میں رحم کرے گا۔ اے میرے نمودگار! اے میرے پردہ کار! اے پوشیدہ جو ظاہر نہیں ہوتا اے

ظَاهِرًا لَا يَخْفَى لَطْفُ اسْرَارِ وَجُودِكَ الْاَعْلَى افْتَرَى فِي كُلِّ

ظاہر جو پوشیدہ نہیں ہوتا! تیرے اعلیٰ وجود کے اسرار باریک ہیں پس یہ اسرار تمام موجودات

مَوْجُودٍ وَعَلَتْ اَنْوَارُ ظُهُورِكَ الْاَقْدَاسِ فَبَدَتْ فِي كُلِّ مَشْهُودٍ

میں دیکھے جاسکتے ہیں اور تیرے نہایت پاک ظہور کے انوار بلند ہیں پس ہر ایک مشہود میں ظاہر ہو رہے ہیں

وَأَنْتَ الْحَلِيمُ الْمَنَّانُ بِالرَّأْفَةِ وَالْعَفْوِ السَّرِيعِ بِالْمَغْفِرَةِ مُؤْمِنٌ

اور تو علم کرنے والا مہربانی سے احسان کرنے والا اور جلدی معافی بخشش کے ساتھ کرنے والا ہے خوف

الْخَائِفِينَ نَصِيرٌ الْمُسْتَعِينِينَ الْقَرِيبُ بِمَخْرَجَاتِ الْقُرْبِ

کرنے والوں کو اُن پینے والا ہے فریاد کرنے والوں کا مددگار قریب اور نبرد کے جہات دور کر کے قریب

وَالْبُعْدُ عَنْ عِيُونِ الْعَارِفِينَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا

کرنے والا عارفوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھانے والا اے کرم کرنے والے! اے کرم کرنے والے! اے

ذَالِ الظُّوْلِ وَالْاِكْرَامِ هَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَ

صاحبِ حشمت اور بزرگی والے سلام کہا گیا رب رحیم سے اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا۔

ورد روزِ دو شنبہ (سوموار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَلِیْمُ الرَّحِیْمُ الْفَعَّالُ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں صاحبِ حلم نہایت مہربان کارکن

اللطیف الولی الحمید الصبور الرشید الرحمن رب

باریک بین کار ساز سراہا گیا مستعمل نہایت والا مہربان اے میرے پروردگار!

اذ قتی من برد حلیک علی ما ابتھیج به فی عوالمی فلا

مجھے اپنے حلم کی ٹھنڈک چکھا جو میرے حق میں ہو جس کے ساتھ میں اپنی معلوت کی گد سے خوش ہو جاؤں پس

اشهد فی الکوّن الا ما یقتضی سکوّنی ورضائی فانک

جہان میں اپنے سکون اور رضا کی اقتضا سے بے دکھائی دیں کیونکہ تو

الحق و امرک الحق وانت الحکیم الرحیم رب اشهدنی

حق اور تیرا امر حق ہے اور تو بچے کام والا مہربان ہے اے میرے پروردگار! بے

مطلق فاعلیتک فی کلّ مفعول حتی لا آری فاعلا غیرک

ہر ایک مفعول میں اپنی فاعلیت دکھلا یعنی مجھے ایسا کر کہ تیری کمال قدرت کے سوا کسی فاعلیت کو خیال میں لاؤں یہاں

لاکون مطمئنا تحت جریان اقدارک منقادا لکل حکم

نہ کہ کوئی نائل تیرے سوا نہ دیکھوں تاکہ تیری تقدیروں کے نیچے ثابت و مطمئن دل ہو جاؤں اور تیرے ہر ایک حکم

وَجُودِي عَيْنِي وَغَيْبِي وَبُرْزُخِي يَا نَافِعَا رُوحِ أَمْرَاهُ فِي كُلِّ عَيْنٍ

دجودی عینی اور غیبی اور برزخی کا فرما ہزار ہاوں لئے امر کا روح ہر ایک وجود میں پھونکنے والے!

اجْعَلْنِي مُنْفَعًا فِي كُلِّ حَالٍ لِّمَا يُحَوِّلُنِي عَنْ ظُلْمَتِ تَكْوِينَاتِي وَ

مجھے امر قبول کرنے والا ہر حال میں کر جو کہ مجھے جہان کے اندھیروں سے برگشتہ کرے اور

أَمْحُ فِعْلِي وَفِعْلَ الْفَاعِلِينَ فِي أَحَدِيَّةِ فِعْلِكَ وَتَوَلَّنِي بِجَمِيلِ

اپنے فعل کے اکیلا بن میں میرا فعل اور تمام فاعلین کا فعل نیست کر دے اور اپنے بزرگ اور

حَمِيدٍ اخْتِيَارِكِ لِي فِي جَمِيعِ تَوَجُّهَاتِي وَأَفِنْ مِنِّي أَرَادَتِي وَ

نیکیوں والے اختیار سے جو تو میرے لیے رکھتا ہے میری کار سازی تمام توجہات سے کر اور میرے ارادے سے مجھ کو

صَبْرِي وَسَدِّدْنِي وَأَرْحَمْنِي وَأَصْحَبْنِي بِاللُّطْفِ وَالْعِنَايَةِ

فانی کر اور مجھے صبر سے اور مجھے خواہشوں سے بند کر اور مجھ پر رحم کر اور لطف و عنایت سے

بِعِيَّةٍ خَاصَّةٍ مِّنْكَ وَحَقِّقْنِي بِقُرْبِكَ الَّذِي لَا وَحْشَةَ مَعَهُ

میرا ہمراہی خاص کہ جو تجھے میرے ساتھ ہو کر اور مجھے اپنے قرب کے لائق کر جس میں میرے ساتھ کوئی وحشت نہ ہے

يَا رَحْمَنُ يَا سَلَامُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اے رحمن! اے سلامتی دینے والے! اور سب تعریف اللہ پروردگار عالمین کو لاتی ہے۔

ورد روز سہ شنبہ منگل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

إِلَهِي مَا أَحْلَمَكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَمَا أَقْرَبَكَ مِمَّنْ دَعَاكَ

اے میرے معبود برحق! تو کیسا بڑا بار ہے اُس پر جو تیری نافرمانی کرے اور تو کیسا قریب ہے اُس سے جو تجھے پکارے

وَمَا أَعْطَفَكَ عَلَى مَنْ سَأَلَكَ وَمَا أَرَأُفَكَ بِمَنْ أَمَلَكَ مَنْ

اور تو کیسا مہربان ہے اُس پر جو تجھ سے سوال کرے اور تو کیسا بڑا رحم ہے اُس کے ساتھ جو تجھ سے امید رکھتے وہ کون

ذَالَّذِي سَأَلَكَ فَحَرَمْتَهُ أَوْلَجَا إِلَيْكَ فَأَهْمَلْتَهُ أَوْ تَقَرَّبَ

ہے جس نے تجھ سے سوال کیا اور تو نے اسے محروم رکھا یا تیری طرف متوجہ ہوا پس تو نے اُسے بیکار چھوڑا یا تجھ سے بھلاپ

مِنْكَ فَاَبْعَدْتَهُ اَوْ هَرَبَ اِلَيْكَ فَطَرَدْتَهُ لَكَ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

جہاں اور تو نے اس کو دور کر دیا یا تیری طرف دوڑ کر گیا پس تو نے اسے ہٹا کر دیا سب خلقت تیری ہے اور سب امر تیرے ہیں

اَلِهٰی اَتْرَاكَ تَعَذُّبُنَا وَتَوْحِيدِكَ فِي قُلُوْبِنَا وَمَا اَخَالَكَ تَفْعَلُ

اے میرے معبود! کیا تو مناسب سمجھتا ہے کہ تو ہمیں عذاب کے در آن طایفہ تیری توحید سارے دلوں میں ہو؟ میں گمان نہیں کرتا کہ تو ایسا کرے گا

وَلٰیۤنْ فَعَلْتَ اَتَجْمَعُنَا مَعَ قَوْمٍ طَالَ مَا بَعَضْنَا هُمْ لَكَ فَبِالْمَكْنُوْنِ

اور اگر تو ایسا کرے گا تو کیا تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا جن کو ہم بڑی مدت تیری محبت کے سبب دشمن جانتے رہے ہیں

مِنْ اَسْمَائِكَ وَمَا وَاَرَتْهُ الْحَجْبُ مِنْ بَهَائِكَ اَنْ تَغْفِرَ لِهٰذِهِ

ناموں کی پوشیدہ تاثیرات کے طفیل اور اپنی پوشیدہ چمک تک کی طفیل اس

النَّفْسِ اَهْلُوْعٍ وَلِهٰذِهِ الْقَلْبِ الْجَزُوْعِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ لِحَرِّ

عریص نفس اور اس بے صبر دل کو بخش دے جو کہ دھوپ کی گرمی میں

الشَّمْسِ فَكَيْفَ يَصْبِرُ لِحَرِّ نَارِكَ يَا حَلِيْمُهُ يَا عَظِيْمُهُ يَا

صبر نہیں کر سکتا پس تیری آگ کی گرمی میں کس طرح صبر کر سکے گا اے علم کرنے والے! اے بڑے مرتبے والے! اے

كَرِيْمُهُ يَا رَحِيْمُهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذَّلٰلِ الْاَلَاكِ وَ

سخی! اے مہربان! اے اللہ! ہم تیرے ساتھ پناہ مانگتے ہیں ذلت سے مگر جو تیرے لیے ہو اور

مِنَ الْخَوْفِ الْاِمْنِكَ وَمِنَ الْفَقْرِ الْاِلَّاۤئِكَ اَللّٰهُمَّ كَمَا

خوف سے مگر جو تجھ سے ہو اور فقر وفاقہ سے پناہ مانگتے ہیں مگر جو تیری طرف سے ہو اے اللہ! جیسا تو نے

صُنْتَ وَجُوْهَنَا اَنْ تَسْبُدَ لِغَيْرِكَ فَصُنْ اَيُّدِيْنَا اَنْ تَمْتَدَّ بِالسُّوْلِ

ہمارے مومنوں کو غیر کے آگے سجدہ کرنے سے بچایا ایسا ہی ہمارے ہاتھوں کو بچا کہ تیرے غیر کے آگے سوال

لِغَيْرِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَ

نہ کریں کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے تجھے پاکی ہے بھیک میں ظالموں سے ہوں اور

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط

سب صفت و ثنا پروردگار جہانوں کے لیے ہے۔

ورد روز چہار شنبہ (بدھ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اَللّٰهُمَّ عَمَّرْ قَدَمَكَ حَدَّتِيْ فَلَا اَنَا وَاَشْرَقَ سُلْطٰنٌ نُّوْرِيْ

یا اللہ! تیری ہمیشگی نے میری پیدائش پر عام احسان کیے ہیں میرا تو کچھ بھی نہیں اور تیری ذات کا نور مجھ

وَجِهَكَ فَاضَاءَ هَيْكَلِ بَشَرِيَّتِيْ وَلَا سِوَاكَ فَمَا دَامَ مِنِّيْ

پر چمکا پس میری بشریت کی ہیکل کو روشن کر دیا اب تیرے سوا کوئی سنظر نہیں آتا پس میں جب تک

فِيْدَا وَاَمِكَ وَمَا فَنِيْ عَنِّيْ فَبِرُوْءِيَّتِيْ اَيُّاىِٕ وَانْتَ الدَّائِمُ لَا

رہوں گا تیری بقا کے ساتھ قائم رہوں گا اور جب میں فنا ہوں گا تو تیرا دیدار مجھے نصیب اور تو دائم ہے نہیں

اَللّٰهُ اَلَا اَنْتَ اَسْأَلُكَ بِالْاَلْفِ اِذَا تَقَدَّمْتُ وَّبِالْهَاءِ اِذَا

کوئی معبود سوا تیرے مجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل الف اللہ کے جب مقدم کیا جاتا ہے اور طفیل ہاء کے جب

تَاَخَّرْتُ وَّبِالْهَاءِ مِنِّيْ اِذَا انْقَلَبْتُ لَمَّا اَنْ تَقْنِيْنِيْ بِكَ عَنِّيْ

پیچھے آتی ہے اور ساتھ ہاء کے مجھ سے جب لام سے بدل جاتی ہے یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ مجھے محو کرنے

حَتّٰى تَلْتَحِقَ الصِّفَةُ بِالصِّفَةِ وَتَقَعُ الرَّابِطَةُ بِالذَّاتِ هَلَا

یہاں تک کہ صفت کے ساتھ صفت مل جائے اور ذات کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے نہیں

اَللّٰهُ اَلَا اَنْتَ يَا حَيُّ هِيَ اَيُّوْمُهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَصَلَّى

کوئی معبود تیرے سوا اے زندہ! اے قائم! اے صاحب بزرگی اور اکرام کے اور ہائے

اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

سردار محمد علیہ السلام اور ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب پر رحمت اور سلام ہو۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ

اور سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے اور سب ستائشیں اسی کے لائق ہیں۔

ورد روزِ پنجشنبه (جمرات)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ هُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ دائم اور ہمیشہ قائم ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہی

الْحَيُّ الْقَيُّومُ هُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ هُ اللَّهُمَّ ارِنِي

نہیں زندہ قائم ہے اور سب زندہ قائم خدا کے آگے ذلیل ہوں گے یا اللہ! میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ هُ يَا اللَّهُ هُ بِمَا سَأَلَكُ بِهِ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى

ماگت ہوں یا اللہ! یا اللہ! وہ کچھ جو تیرے نبیؐ نے تجھ سے سوال کیا جس کا نام پاک محمد

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ يَا وَدُودٌ هُ يَا وَدُودٌ هُ يَا وَدُودٌ هُ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اے مہربان! اے مہربان! اے مہربان!

يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ هُ يَا مُبْدِي هُ يَا مُعِيدِ هُ يَا فَاعِلًا لِمَا

اے صاحب عرش بزرگ کے! اے پہلی بار پیدا کرنے والے! اے دوسری بار پیدا کرنے والے! اے جو کچھ چاہے

يُرِيدُ هُ أَسْأَلُكَ يَا بَنُو سُرٍّ وَجِهَكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَ

پیدا کرنے والے! تیرے ذاتی نور کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ نور جس نے عرش کے ارکان کو پُر کر دیا اور

يَقْدِرُ تَيْكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي

تیرے قدرت کے طفیل جس کے ساتھ تو تمام مخلوقات پر قادر و غالب ہے اور تیری رحمت کی طفیل جو کہ

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ هُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُغِيثُ اغْنِنِي هُ تَيْنِ بَارِ -

ہر چیز پر واسع اور فراخ ہے نہیں کوئی معبود برحق تیرے سوا اے فریاد رکن میری فریادری کر (تین بار)

اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْأَلُكَ يَا لَطِيفُ قَبْلَ كُلِّ لَطِيفٍ هُ وَيَا لَطِيفُ

یا اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے باریک بین ہر ایک باریک بین سے پہلے اور اے مہربان!

بَعْدَ كُلِّ لَطِيفٍ هُ يَا لَطِيفُ هُ تَيْنِ بَارِ - لَطِفْتَ بِمَخْلُقِ السَّمَوَاتِ

ہر ایک مہربان کے بعد اے مہربان! (تین بار) تو نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش

وَالْأَرْضُ هُ اسْأَلُكَ يَا رَبِّ كَمَا لَطَفْتَ بِي فِي ظُلْمَتِ الْأَحْسَاءِ

میں لطف کیا اے میرے اللہ! میں سوال کرتا ہوں جیسا کہ تو نے مجھ پر مائی کے پیٹ کے اندھیروں میں لطف کیا

الطَّفُ بِي فِي قَضَائِكَ وَقَدْرِكَ وَفَرَجَ عَنِّي الضِّيقَ وَلَا تَحْمِلْنِي

ایسا ہی مجھ پر اپنی قضا و قدر میں مہربانی کر اور مجھ سے تنگی دور کر دے اور جس تکلیف کی میں

مَا لَا أُطِيقُ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَ

طاقت نہیں رکھتا وہ مجھ پر نہ ڈالیو بھروسہ محمدؐ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو اور آپ کی کمال

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا لَطِيفُ هُ يَا لَطِيفُ هُ

پر اور بھروسہ ابو بکر صدیق اکبر کے خدا تعالیٰ آپ سے راضی ہو اے مہربان! اے مہربان!

يَا لَطِيفُ هُ الطَّفُ بِي خَفِيَّ خَفِيَّ لَطْفِكَ الخَفِيُّ الخَفِيُّ

اے مہربان! مجھ پر مہربانی کر ساتھ باریک و باریک و باریک لطف لینے کے جو نہایت معنی در معنی در معنی ہے

إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ هُ

تو نے فرمایا اور تیرا فرمان سچ ہے اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو چاہے

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ هُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ هُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور وہ قوت والا غالب ہے اور ہم کو اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے اور سب تعریفیں اللہ کو جو

رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

پروردگار جہانوں کا ہے -

ورد روز جمعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ قَدِيمِ كَرِيمٍ مَكْنُونٍ مَخْرُومٍ أَسْمَائِكَ

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل بزرگ قدیم صاحب عزت پوشیدہ پاک ناموں تیرے کے

وَيَا نَوَاحِ أَجْنَائِسِ رُقُومِ نَقُوشِ أَمْوَارِكَ وَبِعِزِّ زِعْزَاعِ تَعَزُّزِ

اور طفیل قسموں جنسوں رقموں نقشوں نوروں تیرے کے اور طفیل عزت والے اعزاز بزرگ

عَزَّتِكَ وَبِحَوْلِ طَوْلِ حَوْلِ شَدِيدِ قُوَّتِكَ وَبِقَدْرِ مِقْدَارِ

عزت تیری کے اور طفیل طاقت غلبے حملے شدید قوت تیری کے اور طفیل قدر اندازے

اِقْتِدَارِ قُدْرَتِكَ وَبِتَأْيِيدِ تَحْمِيدِ تَعْظِيمِ عَظَمَتِكَ

اقتدار قدرت تیری کے اور طفیل تائید تعریف بزرگی بیان کرنے تعظیم عظمت تیری کے

وَبِسُبُوْنِهِمْ عَلُوْ رَفْعَتِكَ وَبِقِيُوْمِهِمْ دَوَامُ مَدَّتِكَ وَ

اور طفیل اونچائی بڑھنے بلندی رفعت تیری کے اور طفیل قائم رکھنے والی ہمیشگی دوام مدت تیری کے اور طفیل

بِرِضْوَانِ عَفْوَانِ اِمَانِ مَغْفِرَتِكَ وَبِرَفِيْعِ بَدَنِ مَنِيْعِ سُلْطَانِكَ

رضامندی بخشش امان مغفرت تیری کے اور طفیل بلند عجات پختہ حکومت

وَسَطُوْتِكَ وَبِرَهْبُوْتِ عَظْمُوْتِ جَبْرُوْتِ جَلَالِكَ وَبِصَلَاتِ

اور غلبے تیرے کے اور طفیل وید بے عظمت تعجب جلال تیرے کے اور طفیل رحمت

سُعَاتِ سِعَةِ سَاطِرِ رَحْمَتِكَ وَبِلَوَامِعِ بَوَارِقِ صَوَاعِقِ

پاک فراخی فرش رحمت تیری کے اور طفیل بچکنے والے روشن بجلیوں

بِحَيِّجِ هَيِّجِ رَهِيْجِ وَهَيِّجِ بَهِيْجِ نُوْرِ ذَاتِكَ وَبِبَهْرِ فَهْرِ جَهْرِ مَيْمُوْنِ

صاف بھڑک دار روشن نور ذات تیری کے اور طفیل روشن غلبے ظاہر مبارک

اِرْتِبَاطِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَبِهَدِيْرِهِمَا رِيْسَارِنِيْسَارِ اَصْوَابِ بَحْرِكَ

ذاتے توحید تیری کے اور طفیل برحق زور دار جویش زن مہول دریا تیرے کے

اَلْمُحِيْطِ بِمَلَكُوْتِكَ وَبِاِنْفِسَاخِ اِنْفِسَاخِ مِيَادِيْنِ بَرَازِخِ كُرْسِيِّكَ

جو تیری بادشاہی کا محیط ہے اور طفیل فراخ منراخی میدانوں حدود کرسی تیری کے

وَبِهَيِّكَلِيَّاتِ عَلُوِيَّاتِ رُوْحَانِيَّاتِ اَمْلَاكِ اَفْلَاكِ عَرْشَتِكَ وَ

اور طفیل پاک مقامات بلند روحانیات ملکوں افلاک عرش تیرے کے اور

بِاَمْلَاكِ الرُّوْحَانِيَّيْنِ الْمُدَبِّرِيْنَ لِلْكُوَاكِبِ الْمُدِيْرَةِ

اور طفیل فرشتوں مروجہ نیوں کوکب کی تدبیر کرنے والوں تیرے

بِاَفْلَاكِكِ وَبِحَنِيْنِ اَنِیْنِ تَسْكِيْنِ قُلُوْبِ الْمُرِيْدِيْنَ

آسمانوں کے اور طفیل گریہ وزاری تسکین دلوں اور تیرے قرب کے

بِقُرْبِكَ وَبِخَضَعَاتِ حَرَاقَاتِ زَفَرَاتِ الْخَائِفِينَ مِنْ

نہا ہشمنوں کے اور طفیل عاجزیوں سوزشوں مناجاتوں آہ وزاری تیری ہیبت سے ڈرنے

سَطْوَتِكَ وَبِأَمَالِ نَوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي

ڈرنے والوں کے اور طفیل بخشش کی امیدوں تیری رضامندی میں کوشش

مَرْضَاتِكَ وَبِتَخَضُّعِ تَفْطِيحِ تَفْطِيحِ تَعْظِيمِ مَرَاتِرِ

کرنے والوں کے اور طفیل عجز و نیاز بھاری تکلیف کی تنگی کی تعظیم تلخیوں

الصَّابِرِينَ عَلَى بَلَوَاتِكَ وَبِتَعَبِدِ تَمَجُّدِ تَجَلِّدِ الْعَابِدِينَ

صابر لوگوں کے تیری بلاؤں پر اور طفیل بندگی بزرگی بہادری عابد لوگوں کے

عَلَى طَاعَتِكَ يَا أَوَّلُ هُ يَا آخِرُ هُ يَا ظَاهِرُ هُ يَا بَاطِنُ هُ

تیری طاعت پر اے اول! اے آخر! اے ظاہر! اے باطن!

يَا قَدِيمُ هُ يَا مُقِيمُ هُ يَا قَوِيمُ هُ يَا قَدِيمُ هُ

اے قدیم! اے مستقیم! اے قائم رہنے والے! محو کر دے برکتِ عظیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُ شَرِّ سَوِيدِ آءِ قُلُوبِ

بِسْمِ اللَّهِ شریف کے شر سیاہی دلوں

أَعْدَائِنَا وَأَعْدَائِكَ وَدُقِّ أَعْنَاقُ رُءُوسِ الظَّالِمَةِ

دشمنوں ہمارے اور دشمنوں اپنے کو اور اپنے ہتھوڑوں کی تیز

بِسُيُوفِ نَشَاتِ قَهْرِكَ وَسَطْوَتِكَ وَاجْجُبْنَا بِحُبِّكَ

تلواروں سے ظالموں کے سروں سے گردنیں کاٹ لے اور ہم کو اپنے محکم پر دلوں

الْكَثِيفَةِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ عَنْ لِحَظَاتِ

میں طفیل اپنی طاقت و قوت اور قدرت کے ان کی آنکھوں سے

لِحَظَاتِ لَمَعَاتِ أَبْصَارِهِمُ الضَّعِيفَةَ بِعِزَّتِكَ وَ

بہ نظر دلوں کے چمکاروں سے ڈھانپ لے طفیل اپنی عزت اور

قُدْرَتِكَ وَسَطْوَتِكَ يَا اللَّهُ هُ يَا اللَّهُ هُ يَا اللَّهُ هُ وَ

قدرت اور غلبے کے اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اور

صَبَّ عَلَيْنَا مِنْ أُنَابِيْبٍ مِبَازِيْبِ التَّوْفِيْقِ فِي رَوْضَاتِ

مہم پر توفیق کی فواروں کے نکلنے سے نیک سختیوں کے باغوں

السَّعَادَاتِ اِنَاءَ لَيْلِكَ وَاَطْرَافِ نَهَارِكَ وَاغْمِسْنَا فِي

میں رات دن یا نی برے اور مہم کو اپنی

اَحْوَاِضِ سَوَاقِيْ مَسَاقِيْ بَرِّ رِبِّكَ وَرَحْمَتِكَ وَقِيْدَانَا

سیکھنے والی دریاؤں کے جاری و سیراب حوضوں میں نہلا اور مہم کو

بِقِيُوْدِ السَّلَامَةِ عَنِ الْوُقُوْعِ فِي مَعْصِيَّتِكَ يَا اَوَّلُ هُ يَا

گناہوں سے بچنے کی قیدوں میں قید رکھ اے اول! لے

اٰخِرُهُ يَا ظَاهِرُهُ يَا بَاطِنُهُ يَا قَدِيْمُهُ يَا قَوِيْمُهُ

آخر! اے ظاہر! اے باطن! اے قدیم! اے قائم!

يَا مُقِيْمُهُ يَا مُوَلَّاكِيْ هُ يَا قَادِرُهُ يَا مُوَلَّاكِيْ هُ يَا غَافِرُهُ

اے مقیم! اے سیکھنے والے! اے قادر! اے سیکھنے والے! اے گناہ بخشنے والے!

يَا لَطِيْفُهُ يَا خَبِيْرُهُ اَللّٰهُمَّ زَهَلْتِ الْعُقُوْلُ وَالْخُسْرَاتِ

اے لطیف کرنے والے! اے خبر رکھنے والے! یا اللہ! عقل جاتی رہی اور آہٹیں

الْاَبْصَارُ وَحَارَتِ الْاَوْهَامُ وَضَاقَتِ الْاَفْهَامُ وَبَعْدَتِ

تھک گئیں اور مہم حیران ہو گئے اور فہم تنگ ہو گئے اور دل کی

الْخَوَاطِرُ وَقَصُرَتِ الظُّنُوْنُ عَنْ اِدْرَاكِ كُنْهٍ كَيْفِيَّتِهِ

باہیں دور جا پڑیں اور ظن کم ہمت ہو گئے تیری ذات کی کنہ کیفیت

ذَاتِكَ وَمَا ظَهَرَ مِنْ بَوَادِيْ عَجَائِبِ اَنْوَاعِ اصْنَافِ

معلوم کرنے سے اور تیری قدرت کے قسم قسم کے عجائبات کے

قُدْرَتِكَ دُوْنَ الْبُلُوْعِ اِلَى تَلَاوُحِ لَمَعَاتِ لَمَعَاتِ

جنگلوں سے کچھ ظاہر نہ ہوا سولتے چمکنے چمکار روشنیوں

بُرُوْقِ شُرُوْقِ اَسْمَائِكَ يَا اَللّٰهُ هُ يَا اَللّٰهُ هُ يَا اَوَّلُ هُ

چمک دکھت ناموں تیرے کی اے اللہ! اے اللہ! اے اول!

يَا آخِرَهُ يَا ظَاهِرَهُ يَا بَاطِنَهُ يَا قَدِيمَهُ يَا قَوِيمَهُ

اے آخر! اے ظاہر! اے باطن! اے قدیم! اے عقیقہ کار!

يَا مُقِيمَهُ يَا نُورَهُ يَا هَادِيَهُ يَا بَدِيْعَهُ يَا بَاقِيَهُ

اے مقیم! اے نور! اے ہادی! اے پیدا کرنے والے! اے باقی!

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ

اے صاحب جلال و عظمت و انعام عام کے! تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم تیری رحمت

نَسْتَعِيْثُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اِغْنِنَا لَا إِلَهَ إِلَّا

کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس! ہماری فریاد سن تیرے سوا کوئی معبود برحق

أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اِرْحَمْنَا اللَّهُمَّ حَرِّكِ الْحَرَكَاتِ وَ

نہیں اپنی رحمت کے طفیل ہم پر رحمت کر اے اللہ! تھریک دینے والے تمام حرکات کے

مُبْدِيْءِ نَهَايَاتِ الْغَايَاتِ وَمُخْرِجِ يَنْبِيعِ قُضْبَانَ قُصْبَاتِ

اور تمام مقاصد کی انتہا کو شروع کرنے والے! اور اے چشمے زمین سے نکالنے والے بوٹیوں کی شاخیں

النَّبَاتِ وَمُشَقِّقِ صُمْجَلَامِيْدِ الصُّخُوْرِ الرَّاسِيَاتِ

اگلنے والے! اور اے ٹھوس اور سخت پتھروں اور سکہ پہاڑوں کے پھاڑنے والے!

وَالْمُبِيْعِ مِنْهَا مَاءً اَمْعِيْنَا لِمَخْلُوْقَاتِ وَالْمُحْيِيْ يَه

اور ان میں مخلوقات کے لیے بیٹھے چشمے نکالنے والے! اور اس پانی سے

سَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْعَالِمِ بِمَا اَخْتَلَجَ

تمام جانداروں اور بوٹیوں کے زندہ کرنے والے! اور اے لوگوں کے سینوں

فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ اَسْرَارِهِمْ وَاَفْكَارِهِمْ وَفِيْ رَمْزِ

کے بھیدوں اور سکروں کو جاننے والے! اور باریک

نُطْقِ اِشَارَاتِ خَفِيَّاتِ لُغَاتِ النَّهْلِ السَّارِحَاتِ

رمز اور اشارے اور زمین پر چلنے والی چیزوں کی لغتوں اور بولوں کو سمجھنے والے!

يَا مَنْ سَبَّحَتْ وَقَلَّ سِتُّ وَعَظُمَتْ وَكَبُرَتْ وَ

اے وہ پاک ذات کہ تیری تسبیحیں بیان کہیں اور تجھے لکی سے یاد کیا اور تیری عظمت بیان کی اور تجھے بڑائی سے یاد کیا اور

تَجَدَّتْ بِجَلَالِ جَمَالِ كَمَالِ أَقْدَامِ أَقْوَالِ عِزِّهِ وَ

تیری بزرگی بیان کی ساتھ بزرگی نحو بصورتی کمال پیشرو اقوال بڑے بڑے کے جو تیری عزت اور

جَبْرُوتِهِ مَكَانِكَ وَسَمِعْنَا فِي هَذِهِ الْعَامِ وَفِي

جبروت کے لائق ہیں سات آسمانوں کے فرشتوں نے کروے ہم کو اس سال اور

هَذَا الشَّهْرِ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ

اس مہینے اور اس جمعہ اور اس دن اور اس ساعت اور

فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُبَارِكِ مِنْ دَعَاكَ فَاجَبْتَهُ وَسَأَلْتُكَ فَأَعْطَيْتَنِي

اس وقت مبارک میں ان لوگوں سے جن کی تو دعا قبول کرتا ہے اور جو سوال کریں عطا کرتا ہے

وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ فَرَحِمْتَهُ وَإِلَى دَارِكَ دَارِ السَّلَامِ أَدْنَيْتَهُ بِفَضْلِكَ

اور ان کی عاجزی پر رحم کرتا ہے اور اپنی سلامتی کے گھر میں ان کو پہنچاتا ہے اپنے فضل سے

يَا جَوَادُ هُ يَا جَوَادُ هُ يَا جَوَادُ هُ جُدْ عَلَيْنَا وَعَامِلْنَا بِمَا أَنْتَ

اے سخی! اے سخی! اے سخی! ہم پر حسن و نعت کر اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جس کے

أَهْلُهُ وَلَا تُقَابِلْنَا بِمَا نَحْنُ أَهْلُهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى

تو لائق ہے اور اس بات پر ہم پر گرفت نہ کر جس کے ہم لائق ہیں تو ہی پرہیزگاری

وَأَهْلُ السَّغْفِرَةِ ط يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ هُ يَا اللَّهُ هُ

اور بخشش کے لائق ہے اے تمام رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحمت کرنے والے اے اللہ! اے اللہ!

يَا اللَّهُ هُ يَا أَوَّلُ هُ يَا آخِرُ هُ يَا ظَاهِرُ هُ يَا بَاطِنُ هُ يَا

اے اللہ! اے اول! اے آخر! اے ظاہر! اے باطن! اے

قَدِيمُ هُ يَا قَدِيمُ هُ يَا مُقِيمُ هُ يَا نُورُ هُ يَا هَادِي هُ يَا

قدیم! اے قدیم! اے مستقیم! اے نور! اے ہادی! اے

بَدِيعُ هُ يَا بَاقِي هُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ هُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

بدیع! اے باقی! اے صاحب جلال اور عظمت کے! تیرے سوا کوئی معبود نہیں

بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِثُّ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ هُ اغْنَا هُ

ہم تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریاد کرنے والوں کے فریاد سننے والے! ہماری فریاد سن

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور تیری رحمت کے ساتھ اے بڑھ کر رحمت کرنے والے تمام رحمت کرنے والوں ہم

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ

سوال کرتے ہیں اے اللہ! کہ رحمت بھیجے تو ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر اور آپ کی آل پر اور

صَاحِبِهِ وَتَسْلِمَ وَأَنْ تَقْضِيَ حَوَائِجَنَا يَا اللَّهُ هُ يَا اللَّهُ هُ

اصحاب پر اور سلام بھیجے تو اور یہ کہ ہماری حاجتیں پوری کر اے اللہ! اے اللہ!

يَا اللَّهُ هُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اے اللہ! اور سب تعریفیں اللہ پروردگار جہانوں کے لیے ہی ہیں

ورد روزِ شنبہ (ہفتہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ يَا مَنْ نَعْمَةٌ لَا تُحْصَى وَأَمْرٌ لَا يُعْصَى وَ

یا اللہ اے وہ ذات کہ تیری نعمتیں کوئی گن نہیں سکتا اور تیرے امر کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا

نُورٌ لَا يُظْفَى وَلُطْفٌ لَا يُخْفَى يَا مَنْ فَتَقَ الْبَحْرَ

اور تیرا نور بچھ نہیں سکتا اور تیرا لطف پوشیدہ نہیں ہو سکتا اے وہ ذات کہ تو نے حضرت موسیٰ کے

لِمُوسَىٰ وَأَخِي الْمَيْتِ لِعِيسَىٰ وَجَعَلَ النَّارَ بَرْدًا وَسَلَامًا

لیے دریا کا راستہ دیا اور حضرت عیسیٰ کے لیے مرنے زندہ کر دیے اور حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

سرد اور سلامت کر دیا رحمت نازل کر ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرْجًا وَمَخْرَجًا اللَّهُمَّ

پر اور میرے لیے اپنے امر کو خوشی اور خلاصی کا باعث بنا اے اللہ!

بِتِلْكَ نُورِ بَهَاءِ مَجْبِ عَرْشِكَ مِنْ أَعْدَائِي أَحْتَجِبُ

طفیل چمکار نور پردوں عرش تیرے کے میں اپنے دشمنوں سے پردہ مانگتا ہوں

وَبَسْطُورَةِ الْجَبْرُوتِ مِمَّنْ يَكِيدُنِي تَخَصَّنْتُ وَبِحَوْلِ صَوْلٍ

اور طفیل غلبے جلائیات کے جو مجھ سے فریب کرے اُس سے قلعہ گیر ہوتا ہوں اور ساتھ برکت طاقت

جَوْلٍ شَدِيدٍ قُوَّتِكَ مِنْ كُلِّ سُلْطَانٍ تَخَصَّنْتُ وَبِذِيَوْمٍ قِيَوْمٍ

غلبے حملے شدید قوت تیری کو ہر ایک بادشاہ سے قلعہ گیر ہوتا ہوں اور ساتھ برکت و بیشکی قائم رہنے

دَوَائِبِ اَبَدِيَّتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ اسْتَعَدْتُ وَبِمَكْنُونِ السِّرِّ

والے دوام ابدیت تیری کے ہر ایک شیطان سے میں نے پناہ مانگی اور ساتھ برکت پوشیدہ

مِنْ سِرِّ سِرِّكَ مِنْ كُلِّ هَامَّةٍ تَخَلَّصْتُ وَتَخَصَّنْتُ يَا حَامِلَ

در پوشیدہ بھیڑنے کے میں ہر ایک شیطان سے خلاص اور قلعہ گیر ہوا ہوں اے عرش کے

الْعَرْشِ عَنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ يَا حَابِسَ الْوَحْشِ يَا شَدِيدَ الْبَطْشِ

اٹھانے والے! حاملان عرش سے اے بند کرنے والے وحشت! اے شدید حملے والے!

عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَرَأَيْتُ اَنْبَتُ اِحْبَسُ عَنِّي مَنْ ظَلَمَنِي وَاغْلَبَ

تجھ پر میں نے توکل کی اور تیری طرف میں رجوع لایا مجھ سے ظالموں کو بند کر اور جو مجھ پر

عَلَى مَنْ غَلَبَنِي كَتَبَ اللهُ لَا غَلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي اِنَّ اللهَ قَوِيٌّ

غالب ہے اُس پر تو غلبہ کر اللہ نے لکھ دیا میں ضرور غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے تحقیق اللہ قوت والا

عَزِيزٌ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ

غالب ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اور اپنی تمام خلقت سے بڑی

جَمِيعًا اللهُ اَعَزُّ مِمَّنْ اَخَافُ وَاخْذُرُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ الَّذِي

عزت والا ہے اللہ بڑا غالب ہے اُس سے جس سے میں خوف کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُسِكُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ

کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے سات آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے

الْأَبْدَانِ مِنْ شَرِّ عِبْدِكَ فَلَإِنْ وُجِدَتْ وَأَتْبَاعَهُ وَأَشْيَاعِهِ

مگر اُس کے اذن سے شر بندے تیرے فلانے سے اور اس کے لشکروں اور تابعداروں اور فرمانبرداروں

مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ هُ اللهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ جَمِيعًا

رجوں اور انسانوں سے یا اللہ! تو میرے بڑوں میں ان تمام کے شر سے

جَلَّ ثَنَاءُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

تیری صفت بزرگ ہے اور تیرا پڑوس عزت والا ہے اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں

تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ

تُو جو چاہے کر سکتا ہے اور تو ہر ایک چیز پر قادر ہے اور سب تعریف

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ پروردگار جہانوں کے لائق ہے۔

أَمَّا الْاِسْبُوحُ الشَّرِيفُ

لِلسَّيِّدِ اَلْاِمَامِ زَيْنِ اَلْعَابِدِيْنَ

اَبْنِ سَيِّدِ الشُّهُدَاءِ اَلْاِمَامِ

حُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اَرْجُوْا اِلَّا فَضْلَهُ وَلَا اَخْشِیْ

شروع ساتھ نام اللہ کے جس کے فضل کے بغیر کسی سے امید نہیں کرتا ہوں اور نہ بغیر عدل اس

اِلَّا اَعْدَلُهُ وَلَا اَعْتَمِدُ اِلَّا قَوْلَهُ وَلَا اَتَمَسُّكَ اِلَّا

کے کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ بغیر قول اس کے کسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور نہ بغیر رستی اس کے کسی چیز

بِحَبْلِهِ بِكَ اَسْتَجِیْرُ يٰ اَذِ الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ

کو پکڑتا ہوں تیرے ہی ساتھ پناہ لیتا ہوں اے صاحب عفو و رضا ظلم

وَالْعُدْوَانَ هُ مِنْ غَيْرِ الزَّمَانِ وَتَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ هُ وَمِنْ

اور تعذی سے اور حوادثِ زمانہ سے اور پیارے آنے والے غموں سے اور

انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّأَهُبِ وَالْعُدَّةِ هُ وَإِيَّاكَ

گزر جانے مدت سے تیاری اور آمادگی سے پہلے اور تیرے ہی سے

أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَبِكَ أَسْتَعِينُ فَمَا يَقْتَرِنُ

رسمانی چاہتا ہوں اس امر میں جس میں میری بہتری ہو اور تیرے ہی سے مدد مانگتا ہوں اس امر میں کہ جس کے

بِهِ النَّجَاحُ وَالْإِنجَاحُ هُ وَإِيَّاكَ أَرْغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَةِ

ساتھ رہائی اور مقاصد میں کامیابی ہو اور تیری ہی طرف رغبت کرتا ہوں عافیت

وَمَسَاهِمَهَا وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَدَوَائِمِهَا هُ وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ

اور پوری عافیت میں اور شمولیتِ سلامت اور دوامِ سلامت میں اور تیرے ہی ساتھ اے رب میرے!

مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ هُ وَأَحْتَرِزُ بِسُلْطَانِكَ مِنْ جَوْرِ

پناہ لینا ہوں شیطانوں کے عیب لگانے سے اور بچنا ہوں تیرے ہی سلطنت اور زور کے ساتھ بادشاہوں

السَّلَاطِينِ فَتَقَبَّلْ مِنِّي صَلَاتِي وَصَوْمِي وَاجْعَلْ عِدِّي وَ

کے ظلم سے پس قبول کیجیو میری نماز اور روزے کو اور کیجیو کل اور مابعد اس کے

مَا بَعْدَهُ أَفْضَلَ مِنْ سَاعَتِي وَيَوْمِي هُ وَأَعِزَّنِي فِي عَشِيرَتِي

(زمانہ زندہ) کو بہتر موجودہ ساعت اور آج کے دن سے اور عزت بخش مجھے میرے اقارب

وَقَوْمِي فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ حَافِظًا وَأَنْتَ أَحْسَمُ الرَّاحِمِينَ هُ

اور میری قوم میں پس تو ہی اللہ اچھا نگہبان ہے اور تو ہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَفِيمَا بَعْدَهُ مِنْ

اے اللہ! اس میں شک نہیں کہ میں اتنا ظاہر کرتا ہوں جیسے اس آج کے پیشینہ (اتوار) اور آئندہ اتواروں میں

الْإِحَادِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ وَأَخْلِصُ لَكَ دُعَائِي تَعَرُّضًا

شکر اور احسان سے اور خالص کرتا ہوں تیرے لیے اپنی دعا اور پیش کرتا

لِلْإِجَابَةِ هُ وَأَقِيمْ نَفْسِي عَلَى طَاعَتِكَ رَجَاءً لِلْإِثَابَةِ هُ

ہوں میں کرنا قبولیت کے لیے اور قائم کرتا ہوں نفس اپنے کو تیری طاعت پر با تمیہ ثواب

فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ الَّذِي دَعَا إِلَىٰ حَقِّكَ وَأَعَزَّنِي

پس رحمت انا رسول حضرت محمد بہترین مخلوق اپنی بڑی بلا نے والا تیرے حق اور ایمان کی طرف مخلوق کو اور مجھے عزت

بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَأَحْفَظُنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تُتَامُ

بخش اپنی اس عزت سے کہ جس میں کسی نہیں کی جاتی اور مجھے محفوظ رکھ اپنی آنکھ سے کہ جو سوتی نہیں

وَأَخْتَمُ بِالْإِنْقِطَاعِ إِلَيْكَ أَمْرِي وَبِالْمَغْفِرَةِ عُمْرِي

اور میرا خاتمہ کر ساتھ ایسی صفت کہ میرا کام سب بہت کر تیری طرف آجاتے اور خاتمہ کر میری عمر کا مغفرت کے ساتھ

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اس میں شک نہیں کہ تو ہی بخشش کرنے والا رحمت کرنے والا ہے۔

دُعَاءُ رَوْزِ دُوشنبِہ (پیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع ہو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْهَدْ أَحَدًا حِينَ فَطَرَ الْأَرْضَ

ہر صفت اس اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے کسی کو نہیں شہید کیا (کسی سے مدد نہیں لی) بروقت پیدا کرنے زمینوں

وَالسَّمَوَاتِ هَـ وَآلَاتُهَا تَخَذُ مَعِينًا حِينَ بَرَأَ السَّمَاوَاتِ لَمْ

اور آسمانوں کو اور کسی کو مددگار نہیں بنایا بروقت پیدا کرنے جانوں کے کوئی شریک اس کا

يُشَارِكُ فِي الْإِلَهِيَّةِ وَلَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ كَلَّتِ

نہیں ٹھہرا یا گیا حدائی میں اور نہیں وہ مطابقت بنایا گیا ہے کسی کے لیے وحدانیت میں بند ہیں

الْأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَأَنْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ

زبانیں اس کی انتہا۔ صفت سے اور رہ چکی ہیں عقلیں اس کی معرفت

مَعْرِفَتِهِ وَتَوَاضَعَتِ الْجَبَابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ هَـ وَعَدَّتِ الْجُودُ

کی کٹنہ سے اور پست ہو گئے ہیں زبردست لوگ اس کی ہیبت اور دروہشت کے لیے اور ٹٹہ

لِخَشْيَتِهِ وَأَنْقَادَ كُلِّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ فَالْحَمْدُ

اس کے خوف کے لیے اور مطیع ہوا ہے ہر ایک عظمت والا اس کی عظمت کے لیے پس تیرے ہی لیے ہے حمد

مُتَوَاتِرًا مُتَّسِقًا وَمُتَوَالِيًا وَصَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدًا وَ

متواتر مرتب اور پے پے اور درود اللہ تعالیٰ کے رسول پر ہمیشہ نازل ہو اور

سَلَامُهُ دَائِمًا أَبَدًا هُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا

سلام اللہ تعالیٰ کے بھی دائم ہمیشہ اے اللہ! میرے اس دن کے ابتدا

صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا وَأَعُوذُ بِكَ

اصلاح کیجیو اور درمیان اس دن کے کامیابی اور آخر اس کا نجات اور میں تمہیں ساتھ پناہ لینا ہوں

مِنْ يَوْمٍ أَوَّلُهُ فَرَجٌ وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ وَآخِرُهُ وَجَعٌ هُ

ایسے دن سے جس کے ابتدا گھبراہٹ ہو اور درمیان میں فریاد ہو اور اخیر اس کا درد ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتَهُ هُ وَ لِكُلِّ

اے اللہ! میں مغفرت (معافی) طلب کرتا ہوں ہر ایسی نذر سے جو میں نے مانی ہو اور ہر ایسے

وَعْدٍ وَعَدْتَهُ هُ وَ لِكُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتَهُ هُ ثُمَّ لَمَّا آفَ لَكَ

وعدے سے جو کیا گیا ہو اور ہر ایسے عہد سے جو باندھا گیا ہو پھر اس کے وفانہ کیے ہو تیرے

بِهِ وَأَسْأَلُكَ بِهِ فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِي فَأَيُّمَا عَبْدًا مِّنْ

لیے اور اپنی مغفرت کا آپ سے سوال کرتا ہوں حقوق عباد میں جو مجھ پر ہوں پس جس تیرے بندے

عَبِيدِكَ أَوْ أَمَةٍ مِّنْ إِمَائِكَ كَانَتْ لَكَ قَبْلِي مَظْلَمَةٌ ظَلَمْتُهَا

یا تیرے بندے کا کوئی حق مجھ پر ہو چاہے وہ حق تلفی میں نے

إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي عَرَضِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ

اس کی ذات میں ہو چاہے اس کی عزت میں خواہ اس کے مال میں کی ہو خواہ اس کی آل اولاد

وَلَدِهِ أَوْ غَيْبَةٍ أُغْتَبَتْ بِهَا أَوْ تَحَامُلُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ

سے کی ہو یا غیبت اس کی کی ہو یا ظلم اس پر کیا ہو یا اس کی طرف جھک جانے سے یا

أَوْ هَوَىٰ أَوْ أَنْفَةٍ أَوْ حِمِيَّةٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ عَصِيَّةٍ غَائِبًا

خواہش نفس سے یا تکبر سے یا غیرت سے یا ریا سے یا دھڑے بندی سے خواہ وہ شخص

كَانَ أَوْ شَاهِدًا أَوْ حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا فَقَصُرَتْ يَدِي

غائب ہو یا حاضر خواہ زندہ یا مرا ہو پھر میرا ہاتھ قاصر ہے

وَصَاقٍ وَسُئِي عَنْ رَدِّهَا إِلَيْهِ وَالتَّحَلُّلِ مِنْهُ فَاسْأَلْكَ

اور میری طاعت مالی میں گنجائش نہ ہو اس کے حق کے آپس کرنے کی اور معافی لینے کی پھر سوال کرتا ہوں آپ

يَا مَنْ يَمُنُّ بِمِلْكِ الْحَاجَاتِ وَهِيَ مُسْتَجِيبَةٌ بِمَشِيَّتِهِ

سے اے حاجات کے مالک حالانکہ یہ (حاجات) آپ کی مشیت کے تابع ہیں

وَمُسْرَعَةٌ إِلَىٰ رَادِيَّتِهِ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ

اور آپ کے ارادہ کے ماتحت ہیں کہ آپ درود نازل فرمائیں (سیدنا) محمد پر اور

إِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْضِيَهُ عَنِّي بِمَشِيَّتِكَ وَتَهَبَ لِي

آل (سیدنا) محمد پر اور کہ آپ کو مجھ سے راضی کر دیجیے جس طرح آپ چاہیں اور اپنی جنابت مجھے

مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً إِنَّهُ لَا تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَلَا

رحمت کے بخشناش عطا کریں یقیناً آپ کی مغفرت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور

تَضُرُّكَ الْمَوْهَبَةُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ

بخشناش سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اے ارحم الراحمین اے اللہ!

أَوْلِنِي فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ مِنْكَ ثِنْتَيْنِ سَعَادَةٍ

مجھے ہر پیر کے دن دو نعمتیں اپنی جنابت سے دے دیجیے ایک سعادت

فِي أَوْلَاهِ بِطَاعَتِكَ وَنِعْمَةٍ فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ

اس کے ابتدا میں دوسرے مغفرت اس کے انتہار میں اے وہ

هُوَ الْإِلَهِ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَاهُ

کہ جو معبود ہے اور اس کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔

دُعَاءُ رَوْزَةِ شَبَّانِ (مَنْكَل)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ حَمْدًا كَثِيرًا

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور (درحقیقت) حمد و ثنا اٹھیر کا حق ہے جس طرح کہ ان کا استحقاق ہے حمد زیادہ

وَاعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

سے زیادہ اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نفس کی شرارت سے یقیناً نفس گناہ پر بہت آمادہ کرنے والی ہے

إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي هُوَ وَاعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي

مگر جب رب کا رحم ہو تو بچاؤ ہو جائے اور اسی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کی شرارتوں سے جس کا کام ہی

يَزِيدُنِي ذَنْبًا إِلَى ذَنْبِي وَاسْتَرْتِرُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ

یہ ہے کہ موجودہ گناہوں کے ساتھ اور گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور اسی کی مرز و حفاظت میں آتا ہوں ہر جبار

فَاجِرٍ وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ هُوَ وَعَدُوٌّ قَاهِرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ

فاجر سے اور بادشاہ ظالم سے اور دشمن غالب سے اے اللہ! کرنے بچے اپنے

جُنْدِكَ فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ حِزْبِكَ فَإِنَّ

لشکر میں سے اس واسطے کہ تیرا لشکر ہی غالب ہے اور بنا دے مجھے اپنی جماعت میں سے اس واسطے

حِزْبِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِكَ فَإِنَّ

کہ تیری جماعت ہی کا پناہ ہے اور مجھے اپنے اولیاء میں بنا دے اس واسطے

أَوْلِيَاءِكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ

کہ تیرے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی پریشان و ملول ہوں گے اے اللہ!

اصْلِحْ لِي دِينِي فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي

میرے لیے میرا دین ٹھیک کر دے اس واسطے کہ دین میرے تمام کاموں کا پناہ ہے اور میری آخرت بھی

آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ مَقَرَّتِي وَإِلَيْهَا مِنْ مُجَاوِرَةِ اللَّسَامِ

ٹھیک کر دے اس واسطے کہ وہ میری دارالقرار ہے اور اسی کے لیے اسی آخرت کی طرف

مَفَرَّتِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْوَفَاةَ

میرا سفر ہے اور میری زندگی ہر نیک کام کے زیادہ کا موجب بنا دے اور موت کو

رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ

ہر تکلیف سے آرام کا موجب بنا دے اے اللہ! سیدنا محمد پر صلوات بھیجو جو تمام

النَّبِيِّينَ وَتَمَامِ عِدَّةِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

انبیاء کے بعد ہیں اور مرسلین کی تعداد کو پورا کرنے والے ہیں اور ان کی آل پر جو نیک و باطن

الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّخِبِينَ وَهَبْ لِي فِي الثَّلَاثَةِ

میں پاک ہیں اور ان کے اصحاب پر جو سب نیا سے انتخاب کر گئے ہیں اور عطا فرما مجھے منگل کے دن

ثَلَاثًا لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا غَمًّا إِلَّا أَذْهَبْتَهُ

تین چیزیں کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہ چھوڑیے اور کسی غم کو بغیر دوا کیے نہ رکھیے

وَلَا عَدُوًّا إِلَّا دَفَعْتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ

اور کسی دشمن کو بغیر دفع کیے نہ رہنے دیجیے برکت بسم اللہ سے جو اہم اللہ میں سے فضل ہے اللہ تعالیٰ کے اسم بڑا

رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ اسْتَدْفِعْ كُلَّ مَكْرُوهٍ أَوْ لَهْ

کے ساتھ جو زمین اور آسمان کا رب ہے ہر ایسے مکروہ کو دفع کرتا ہوں جس کی ابتداء

سَخِطُهُ وَاسْتَجِبْ كُلَّ مَحْبُوبٍ أَوْ لَهْ رِضَاهُ فَاخْتِمْ لِي

ناراضگی ہو اور ہر محبوب امر کو کھینچتا ہوں جس کی ابتداء آپ کی خوشی ہو اپنی جانب سے میرا انجام

مِنْكَ بِالْغُفْرَانِ يَا وَلِيَّ الْأِحْسَانِ ط

مغفرت کے ساتھ بھیجیے اے احسان کے مالک!

دُعَاءُ رَوْزِ بَہَارِ شَنِبِہِ (بَدھ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم اللہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَ

تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام دہ بنایا اور

جَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا لَكَ الْحَمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ

دن کو کام کے لیے بھرایا تیری ہی ثنا ہے اس مہربانی پر کہ مجھے بستر سے

مَرَقِدِي وَكُوْنِي لِي سِرْمًا أَحْمَدًا إِذَا سَمَا

اٹھٹایا اور اگر آپ کا ارادہ ہوتا تو میں ہمیشہ ہی سویا رہتا ایسی حمد جو دائم ہو

لَا يَنْقُطُ أَبَدًا وَلَا تُحْصِي لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَا اللَّهُمَّ

اور کبھی بھی ختم نہ ہو اور نہ ہی تم خلائق اس کو گن سکتے اے اللہ!

لَكَ الْحَمْدُ أَنْ خَلَقْتَ فَسَوَّيْتَ وَقَدَّرْتَ وَقَضَيْتَ وَ

تیرا شکر ہے کہ تو نے پیدا کیا پس ٹھیک کیا اور اندازہ لگایا اور فیصلہ کیا آپ نے اور

أَمَّتْ وَأَحْيَيْتَ وَأَمْرَضْتَ وَشَفَيْتَ وَعَافَيْتَ وَعَلَى

مارا آپ نے اور زندہ کیا آپ نے اور بیمار کیا آپ نے اور شفا دی آپ نے اور صحت ہی آپ نے اور عرش پر

الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَى الْمَلِكِ احْتَوَيْتَ أَدْعُوكَ دُعَاءَ

تسطر کیا آپ نے اور تمام ملک کو گھیرا آپ نے میں آپ کو پکارتا ہوں اور پکار

مَنْ ضَعُفَتْ وَسَيْلَتُهُ وَانْقَطَعَتْ حِيلَتُهُ وَأَشْتَرَبَ

اس شخص کی ہے جس کا وسیلہ ضعیف ہو گیا ہو اور حیلہ منقطع ہو گیا ہو اور اجہل قریب

أَجَلُهُ وَتَدَانِي أَمَلُهُ وَأَشْتَلَّتْ إِلَى رَحْمَتِكَ فَاقْتِهِ

آگتی ہو اور امید نزدیک اور احتیاج تیری رحمت کی طرف شدید اور سخت ہو

وَعَظُمَتْ لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُهُ وَكَثُرَتْ زَلَّتُهُ وَعَظُرَّتُهُ

اور حسرت اس کی باعث اس کی کوتاہی کے بہت بڑھ گئی ہو اور ٹھوکریں کثرت سے ہوں اور بہت دفعہ گرا ہو

وَخَلَصْتُ لِرُوحِكَ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ

اور جس کی توبہ تیری ذات کے لیے بالکل خالص ہو پس درود بھیجیے سیدنا محمد پر جو پاک

النَّبِيِّينَ الطَّاهِرِينَ وَارْزُقْنِي شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور سیدنا محمد کی شفاعت میرے نصیب فرما،

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَيْبَةُ وَلَا تَحْرِمْنِي صُحْبَتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی صحبت سے محروم نہ رکھیے یقیناً آپ ارحم

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي الْأَرْبَعَاءِ أَرْبَعًا اجْعَلْ

الراحمین ہیں اے اللہ! مہذبہ کے دن چار چیزیں عطا فرما دیجیے میری تمام

قُوَّتِي فِي طَاعَتِكَ وَنَشَاطِي فِي عِبَادَتِكَ وَرَغْبَتِي فِي

طاقت اپنی طاعت میں صرف کیجیے اور اپنی عبادت میں مجھے مستعد بنا دیجیے اور اپنے ثواب کی طرف

ثَوَابِكَ وَزُهْدِي فِي مَا يُوجِبُ لِي أَلِيمَ عِقَابِكَ إِنَّكَ

میری خواہشیں پوری کیجیے اور جو امور آپ کے عذاب الیم کا موجب ہیں ان سے مجھے پھیر دیجیے یقیناً آپ

لَطِيفٌ لِّمَا تَشَاءُ ط

جس پر چاہیں مہربان ہیں۔

دُعَاءُ رَوْزِ پَنچِ شَبَّہِ (جمعرات)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ الْیَلْمَ مُظْلِمًا بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ

تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے سیاہ رات کو عتیم کیسا اور اپنی

بِالنَّهَارِ مُبْصِرًا اِبْرَحْمَتِهِ وَكَسَانِیْ ضِیَاءَهُ وَاِنَّا فِیْ نِعْمَتِهِ ط

رحمت سے دکھانے والا دن لے آیا اور اس کی روشنی مجھے پہنائی اور نعمت عطا کی

اَللّٰهُمَّ فَلَمَّا اَبْقَيْتَنیْ لَهٗ فَاَبْقِنِیْ لِامْتَالِهٖ وَصَلِّ

اے اللہ! پس جب آپ نے مجھے باقی رکھا ہے اس کے امثال کے لیے باقی رکھو اور روزِ بھیبیو

عَلِ النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَلَا تَفْجَعْنِیْ فِیْهِ وَفِیْ غَیْرِهٖ ط

سیدنا محمد نبی پر اور ان کی آل پر اور مجھے دروند پہنچاتے اس دن میں اور دوسری

مِنَ اللِّیَالِ وَالْاِیَّامِ بِاَرْتِکَابِ الْمَحَارِمِ وَاکْتِسَابِ

راتوں میں اور ایام میں محارم کے ارتکاب کرنے میں اور گناہ کے

الْمَآثِمِ ط وَاَرْزُقْنِیْ خَیْرَةً وَخَیْرًا مَّا بَعْدَہٗ وَاَصْرِفْ عَنِّیْ

حاصل کرنے میں اور نصیب فرمائیے میرے اس دن کی اچھائی اور جو کچھ اس میں اس کی اچھائی اور اس کے بعد کی اچھائی اور

شَرًّا ط وَشَرًّا مَّا فِیْہِ وَشَرًّا مَّا بَعْدَہٗ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ط

پھیر دیجیے مجھ سے اس کا شر اور جو کچھ اس میں اس کے شرے اور اس کے بعد کے شرے اے اللہ تعالیٰ! میں

یَذِمَّةَ الْاِسْلَامِ اَتُوَسَّلُ اِلَیْکَ وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ ط

اسلام کے عہد اور فرمانبرداری کو تیری طرف وسیلہ لاتا ہوں اور قسم ہے قرآن کی عزت کی

اَعْتَمِدُ عَلَیْکَ وَبِحُكْمِ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

کہ آپ پر آسرا کرتا ہوں اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَاعْرِفْ اَللّٰهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ

آپ کی جناب میں شفیع لانا ہوں پس اے اللہ! میرے اس ذمہ کی قدر پہچان جس کے ساتھ میں اپنی حاجت

بِهَا قَضَاءٌ حَاجَتِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اقْضِ

کے پورے ہونے کی امید رکھتا ہوں اے ارحم الراحمین! اے اللہ! اس جمعرات

لِي فِي الْخَبِيْثِ سِخْمًا لَا يَتَسَعُ لَهَا اِلَّا كَرَمُكَ وَلَا يُطِيْقُهَا

کے دن میری پانچ حاجت جو بوری فرماتے یہ حاجات تیرے کرم میں سما سکتی ہیں اور تیرا انعام ان کو

اِلَّا نِعْمَتِكَ سَلَامَةً اَقْوَى بِهَا عَلٰى طَاعَتِكَ وَعِبَادَةِ اَسْتَحِقُّ

برداشت کر سکتے ہیں سلامتی تاکہ اس کے باعث تیری طاعت کی قوت ہو اور عبادت جس کے سبب

بِهَا جَزِيْلٌ مَّثُوْبَتِكَ وَسَعَةٌ فِي الْمَالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ

سستخی ہوں میں تیرے بڑے ثواب کا اور رزق حلال میں وسیع مال کا

وَاَنْ تُوْمِنِيْ فِي مَوَاقِفِ الْخَوْفِ بِاَمْنِكَ وَتَجْعَلَنِيْ مِنْ

اور یہ کہ آرام دیجیے مجھے خوف کے موقعوں پر اپنے امن کے ساتھ اور یہ کہ رات کی آنے

طَوَارِقِ الْهُمُوْمِ وَالْغُمُوْمِ فِي حَضْرَتِكَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ

والی پریشانیوں اور غموم سے مجھے اپنے قلعے میں محفوظ کر لیجیے اور درود بھیجیے سیدنا محمد پر اور آپ

وَاجْعَلْ تَوْسَلِيْ بِهِ شَافِعًا يُّوْمَ الْقِيَامَةِ نَافِعًا اِنَّكَ اَنْتَ

کی آل پر اور یوم القیامت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا توسل میرا شفیع بنا دیجیے جو نفع دینے والا ہو

اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

یقیناً آپ ارحم الراحمین ہیں۔

دُعَاءِ رُوْزِ جُمُعَةٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَوَّلِ قَبْلَ الْاِنْشَاءِ وَالْاٰخِرِ

تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو پیدا کرنے اور زندہ کرنے سے پہلے اور تمام اشیاء

بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَا يَنْسِي مِنْ ذِكْرِهِ وَ

کے فنا کے بعد باقی ہے جو علیم ہے وہ کہ بڑی یاد کرنے والوں کو بھولتا نہیں اور

وَلَا يَنْقُصُ مِنْ شُكْرِهِ وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ وَلَا يَقْطَعُ

شکر کرنے والوں کا اجر کم نہیں کرتا اور پکارنے والے کو ناامید نہیں کرتا اور امید کرنے والوں کی

رَجَاءَ مَنْ رَجَاهُ اللَّهُ إِيَّانِي أَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا

امید قطع نہیں کرتا اے اللہ تعالیٰ! میں آپ کو گواہ کرتا ہوں اور آپ کی شہادت کافی ہے

وَأَشْهَدُ بِجَمِيعِ مَلَائِكَتِكَ وَسُكَّانِ سَمَوَاتِكَ وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ

اور گواہ بناتا ہوں تمام فرشتوں کو اور تیرے آسمان کے باسیوں کو اور تیرے عرش کے حاملین کو

وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ

اور ان کو جنہیں آپ نے بھیجا انبیاء اور رسل میں سے اور پیدا کیا آپ نے اقسام

خَلْقِكَ إِيَّانِي أَشْهَدُ أَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

خلق سے یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں کوئی سمجھتا نہیں مگر آپ فقط

لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا عَدِيلٌ وَلَا خَلْفٌ لِقَوْلِكَ وَلَا تَبْدِيلٌ

آپ کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی ہمسر اور آپ کے حکم کا خلاف نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں تبدیلی

وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَصْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِلَهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

اور یقیناً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عبد ہیں اور آپ کے رسول ہیں

أَدَى مَا حَمَلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ وَجَاهِدٌ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

جو شریعت آپ نے ان کے ذمہ لگائی تھی انہوں نے بندوں تک پہنچائی اور اللہ کے لیے انہوں نے

حَقُّ الْجِهَادِ وَأَنَّكَ بِشَرِّبَهَا هُوَ حَقٌّ مِّنَ الثَّوَابِ

پر اور اپورا جہاد کیا اور یقیناً انہوں نے بشہرت دی واقعی اور سچے ثواب کی

وَأَنَّكَ رِبِّهَا هُوَ صِدْقٌ مِّنَ الْعِقَابِ اللَّهُمَّ نَبِيَّتِي

اور ڈرایا سچے اور واقعی عذاب سے اے اللہ! مجھے اپنے نبی

عَلَى دِينِكَ مَا أَحْيَيْتَنِي عَلَى دِينِكَ وَلَا تَزِغْ قَلْبِي بَعْدَ

پر شہادت قدم رکھے جب تک کہ آپ مجھے اپنے دین پر زندہ رکھیں اور میرے دل کو گمراہانہ کیجیے جب تک کہ

إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

آپ نے مجھے ہدایت فرمائی ہے اور اپنی جانب سے مجھے رحمت عطا کیجیے۔ یقیناً آپ

الْوَهَّابُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي

سب کچھ دینے والے ہیں۔ صلے علی محمد و آل محمد اور بنا دیجیے

مِنْ أَتْبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَأَحْشِرْنِي فِي زُمْرَتِهِ هُ وَ

آنحضرت کے متبعین اور گروہ سے اور آنحضرت کے گروہ میں میرا حشر کیجیے اور

وَفَقِّنِي لِإِدَاءِ فَرَضِ الْجُمُعَاتِ عَلَىٰ فِيهَا مِنْ

توسیق دیجیے جموں کے فرائض کے ادا کی جو طاعات

الطَّاعَاتِ وَقَسَمْتَ لِأَهْلِهَا مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَاءِ

ہیں اور بانٹیں گے ان اطاعت گزاروں کو عطا۔ یوم الجُمُعَاءِ میں

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

یقیناً آپ ہی غالب اور حکیم ہیں۔

عشاءِ روزِ شنبہ (ہفتہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةُ الْمُعْتَصِمِينَ ه وَمَقَالَةُ الْمُتَحَرِّزِينَ

بسم اللہ جو چنگل مارنے والوں کا کلمہ ہے اور پناہ لینے والوں کا مقالہ ہے

وَأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ ه وَكَيْدِ

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے پناہ لیستوں اور حاسدین کی

الْحَاسِدِينَ وَبَغْيِ الظَّالِمِينَ وَأَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ

خفیہ تدبیروں اور ظالمین کے ظلم سے اور اس کی حمد کرتا ہوں تمام حامدین کے

الْحَامِدِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ لَا شَرِيكَ ه وَالْمَلِكُ

حمد سے فائق ہے اللہ! آپ ہیکت ہیں بلا شریک اور بادشاہ ہیں

بِإِتْمَانِكَ لَا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَلَا تُتَارَعُ فِي مُلْكِكَ

بلا بادشاہ بنانے کے تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیرے ملک میں تنازعہ نہیں

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَنْ

میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کہ درود نازل کیجیے سیدنا محمد پر جو آپ کے عبد ہیں اور رسول اور کہ

تُوزِعَنِي مِنْ شُكْرِ نِعْمَاتِكَ مَا تَبْلُغُنِي غَايَةَ رِضَاكَ وَ

حصہ دیجیے شکر یہ نعمتوں سے اس قدر کہ پہنچا دے مجھے آپ کی خوشی کی انتہا تک اور

أَنْ تُعِينَنِي عَلَى طَاعَتِكَ وَلِزُومِ عِبَادَتِكَ وَأَسْتَحِقَّ

کہ اعانت کیجیے میری اپنی طاعت اور اپنی عبادت کے لزوم پر اور اپنے ثواب کے

مَثُوبَتِكَ بِلُطْفِ عِنَايَتِكَ وَتَرْحَمَنِي بِصِدْقِ عَن

استحقاق پر اپنی لطیف عنایت سے اور کہ رحم فرمائیے مجھ پر اپنی نافرمانیوں سے

مَعَاصِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي وَتَوَفَّقَنِي لِمَا يَنْفَعُنِي مَا

روک کر جب تک مجھے زندہ رکھیے اور توفیق دیجیے مجھے ان امور کی جو مجھے نفع دیں جب تک

أَبْقَيْتَنِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَتَحْطَبَ بِلَاوِيَتِهِ

مجھے باقی رکھیں اور کہ کھول دیجیے میرا سینہ اپنی کتاب سے اور اُتار دیجیے گناہ میرے

وِزْرِي وَتَمْنَحْنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَنَفْسِي وَلَا تُؤْحِشْ

اس کی تلاوت سے اور کہ دیجیے مجھے سلامتی میرے دین میں اور میری رُوح میں اور میرے آنسوؤں

بَنِي أَهْلِ أُنْسِي وَتَتَمَّرَ إِحْسَانُكَ فِيهِمَا بَقِيَّ مِنْ عَمْرِي

کو مجھ سے ملول نہ کر اور کابل کر دیجیے اپنے احسان میں میری بقیہ عمر میں

كَمَا أَحْسَنْتَ إِلَيَّ فِي مَا مَضَى مِنْهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

جیسا کہ احسان کیا آپ نے مجھ پر گزری ہوئی عمر میں اے ارحم الراحمین!

طریقہ زکوٰۃ درودِ مستعات شریف

یہ ہے کہ ہر مہینہ قمری کے اول چہار شنبہ کو شروع کرے۔ پہلے روز ایک بار دوسرے روز دو بار۔ اسی طرح ایک ایک بار ہر روز زیادہ کرتا جائے تاکہ گیارہویں روز گیارہ بار پڑھے۔ پھر گھٹانا شروع کرے یعنی بارہویں روز دس بار۔ علیٰ ہذا القیاس اکیسویں روز ایک مرتبہ پڑھ کر ختم کرے۔ بعد ازاں ہمیشہ نماز صبح سے اول یا بعد ایک مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کرے۔ ایام زکوٰۃ میں روزہ رکھے اور اشیاءِ جلالی مثل گوشت و پیاز و اسن و غیرہ کی پرہیز کرے اور جماع بھی نہ کرے۔ پڑھنے کے وقت خوشبو پاس رکھے۔ کپڑا صاف و سفید پہنے اور خواندگی کی ایک جگہ معین رکھے اور شروع کرنے سے پہلے اور بعد کھانا پکا کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح پاک اور ارواحِ نوابِ جگہ حشمتیہ خصوصاً اپنے پیر کی رُوح پاک کو ثواب پہنچا دے اور دونوں جہان کی سلامتی و عافیت کے لیے دعا مانگے۔

يَا اللَّهُ

دَرُودِ شَرِيفِ مُسْتَعَاثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَ النَّبِيِّينَ بِحَبِيْبِهِ الْمُصْطَفَى

تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے ایسا اللہ کہ زینت دی نبیوں کو ساتھ حبیب اپنے پیغمبر حبیہ کے

وَمَنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِنَبِيِّهِ الْمُجْتَبَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اور احسان کیا اوپر مومنوں کے ساتھ نبی کریم اپنے برگزیدہ کے درود اور سلام

عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى هُ الْمُسَيَّرِبَهُ مِنْ فَوْقِ

اوپر رسول کریم کے جو اسم ان کا محمد بہتر خلق کے وہ نبی کہ سیر کرایا گیا ان کو عرش مجید

الْعَرْشِ التَّحْتِ الثَّرَى هُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا مَضَى وَالْحَمْدُ

سے سات زمین کے نیچے تک تمام صفات ثابت ہیں واسطے اللہ کے اور اس چیز کے جو گزری اور تمام صفات ثابت

لِلَّهِ عَلَى مَا بَقِيَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى هُ

ہیں اللہ کی اور بقی اس چیز کے جو باقی ہے اور درود اور سلام اوپر رسول اللہ کے جو محمد ہیں بہتر خلق کے

مَدْحُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ أَنْتَ

تعریف کی میں نے تیرے لیے اے رسول اللہ! کہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اوپر نبی کریم امی کے تمہیں جو

خَيْرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

نبی برگزیدہ اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ رَسُولُ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے رسول سردار دو جہان کے

فَتَّاحُ فَاتِحِ اللَّهِ هُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

کھولنے والے مشکلوں جاری کرنے والے اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى

درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اکرم اللہ کے! ایسے نبی کہ برگزیدہ ہیں

رَسُولُ سِرَاجِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٌ مُطِيبٌ اللَّهُهُ الْمُسْتَعَاثُ

رسول چراغ عالم کے لوگوں کے تھریف کیے گئے، پاک کیے گئے اللہ کے فریاد پہنچے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُهُ السَّيِّدُ الْمُعَلَّى رَسُولُ نَبِيِّ الْخَافِقِينَ قَاسِمُ خَيْرِ

اللہ کے! سردار بلند مرتبہ والے رسول نبی اہل مشرق اور مغرب بانٹنے والے حوض کوثر کے بہتر

خَلْقِ اللَّهِهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

خلقت اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِهُ أَوْلَىٰ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ رَسُولُ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! بہتر بندوں سے اللہ کے رسول

صَاحِبُ الدَّارَيْنِ خَادِمٌ طَيِّبٌ اللَّهُهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

صاحب دو جہان کے خادم پاک بندوں سے اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِهُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے!

النَّبِيُّ الْمُرَكَّبِيُّ تَاجُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَارُهَا صَاحِبُ الدُّنْيَا

نبی پاک کیے گئے رسول تاج دونوں عرصوں کی اور مدینہ منورہ کے منع کرنے والے اللہ کے پاک

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِهُ هَدَانَا رَسُولُ بَدَلِ الطَّيِّبِينَ الْحُسَيْنِ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! ہدایت کیا ہم کو رسول نانا دو پاکوں کے یعنی حسینؑ

وَالْحُسَيْنِ دَلَّعَ مُطَهَّرِ اللَّهِهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

اور حسینؑ کے بلائے اور طہر عبادت اللہ کے پاک کیے گئے اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ نَبِيُّ

تعالیٰ کے درود اور سلام اُدپر تیرے اے رسول اللہ کے نبی

مُخْتَارٌ مَّرْتَضَى إِمَامٌ رَسُولٌ مُقْتَدَى الْأَيْمَةِ

اختیار دیے گئے برگزیدہ کیے گئے امام رسول اقتدا کیے گئے اماموں کے وہ امام جو

الْمَهْدِيِّينَ هَادٍ مَّبِينٌ اللَّهُ هُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

راہ راست دکھاتے گئے ہدایت دینے والے ظاہر کرنے والے امر اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ هَدَانَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُدپر تیرے اے رسول اللہ کے! ہدایت دیا

رَسُولٌ مَّهْدِيٌّ مِّنَ الصَّلَاةِ مُهْتَدٍ مُّطِيعٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ

یہیں رسول راہ راست دکھاتے گئے گراہی سے راہ راست دکھاتے گئے فرمانبردار اللہ کے فریاد پہنچے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُدپر تیرے اے رسول

اللَّهُ هُ حَبِيبُنَا رَسُولٌ مَّهْدِيٌّ الْأُمَّةِ وَرَسُولٌ صَفِيُّ

اللہ کے! محبوب ہمارے رسول ہدایت دینے والے امت کے اور رسول برگزیدہ برہان

حُجَّةُ اللَّهِ هُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

اور ہادی راہ اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ مُحَمَّدٌ مَّجِيبُنَا أَحْمَدُ

اور سلام اُدپر تیرے اے رسول اللہ کے! محمد دوست رکھ دیے گئے ہم کو احمد

رَسُولٌ كَرِيمٌ مَّرْضِيُّ خَلِيفَةُ اللَّهِ هُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

رسول کریم برگزیدہ کیے گئے خلیفہ کیے گئے اللہ کے فریاد پہنچے گئے طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُدپر تیرے اے رسول اللہ کے!

رَسُولُنَا رَسُولٌ عَلَى الدَّوَامِ نَبِيُّ طَهُ قَائِمٌ حَامِدٌ اللَّهُ هُ

رسول ہمارے رسول اُدپر ہمیشگی کے نبی طہ قائم ہونے والے عبادت میں تعریف کرنے والے اللہ کی

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِيرِنَا رَسُولُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولُ

اے رسول اللہ کے! امیر ہمارے رسول اور نبی محمد رسول

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِرٌ كَلِيمُ اللَّهِ

اللہ کے رحمت کرے اللہ تعالیٰ اُن پر اور سلام یاری دینے والے کلام کرنے والے ساتھ اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُعِينِنَا رَسُولُ وَالذُّرُّ الْبِئْسُ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! مدد کرنے والے ہم کو رسول اور موتی خالص نبی کریم وہ کڑوا مبارک

الْيَاسِينَ إِمَامٌ أَمِينُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

اُن کا یاسین ہے پیشوا امانت دار اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُصَدِّقُنَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! سچا کرنے والے ہم کو

رَسُولٌ وَحَبِيبُنَا نَبِيٌّ مَزْمَلٌ بَيَانٌ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

رسول اور محبوب ہمارے نبی کلیم پوش بیان کرنے والے رسول اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ شَاهِدُنَا رَسُولٌ وَنَبِيٌّ مَدَّ شَرَّ قُرْآنٍ نَوْرُ اللَّهِ

اللہ کے! شاہد ہمارے رسول اور نبی لباس پوشن نزدیک کرنے والے نور اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام اوپر تیرے

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَذْكُرُنَا رَسُولٌ مُعْطَرُ الرُّوحِ بَأْسٌ

اے رسول اللہ کے! یاد دلانے والے ہم کو رسول خوشبودار رُوح والے نیکی کرنے والے

جَوَادُ اللَّهِ ط الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

سخی اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط سُلْطَانُ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! بادشاہ نبیوں کے رسول

صَاحِبُ الْفُرْقَانِ مَكِّيٌّ شَكَرُ اللَّهِ ط الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

صاحب فرقان شریف کے مکے والے شکر کرنے والے اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ ط إِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ الْكَوْثَرِ مَدَنِيٌّ

اللہ کے! امام پرہیزگاروں کے رسول صاحب حوض کوثر کے مدینے شریف کے رہنے والے

مُنِيرُ اللَّهِ ط الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

نورانی بندے اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط سِرَاجُ الْأَوْلِيَاءِ رَسُولُ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! چراغ ولیوں کے رسول

صَاحِبِ الْمِيزَانِ أَبْطَحِيٌّ قَرِيبُ اللَّهِ ط الْمُسْتَعَاثُ

صاحب میزان کے بطحی والے نزدیک اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ ط بَرَّهَانَ الْأَصْفِيَاءِ رَسُولُ سَيِّدِ الْقَوْمِ عَرَبِيٌّ يَسْتِيمُ

اللہ کے! برہمان برگزیدوں کے رسول سردار قوم کے عربی یتیم

اللَّهُ ط الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط شَفِيعُنَا رَسُولُ مَجْرَاهُ

سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! شفیع ہمارے رسول کریم جگہ جاری ہونے شفا دہنے کے

الْمُهْدِيُّ وَرَيْثِيُّ شَهِيدِ اللَّهِ ۝ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى

ہدایت بھیجنے والے وراثت والے شاہد اللہ کے فریاد چاہنے والے طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ ۝ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَرِثِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولِ خَادِمِ

اللہ کے! پیشوا مؤمنوں کے اور زینت نبیوں کے رسول خدمت کرنے والے

الْفُقَرَاءِ حِجَابِيُّ نَذِيرِ اللَّهِ ۝ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

فقیروں کی حجابی ڈرانے والے اللہ کی طرف سے فریاد چاہنے والے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝ خَتْمِ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! آخرت کے

الْأَنْبِيَاءِ رَسُولِ مَا جِئَ مُحَمَّدٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ۝ الْمُسْتَغَاثُ

نبیوں کے رسول دور کرنے والے کفر کے محمد بن عبد اللہ کے فریاد چاہنے والے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ ۝ صَادِقِنَا رَسُولٍ مَّرْسَلٍ مَوْسُطٍ رَحِيمٍ اللَّهُ ۝

اللہ کے! سچ کہنے والے ہمارے رسول بھیجے گئے درمیان کرنے والے شرع کو رحیم اللہ کے

الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

فریاد چاہنے والے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝ سَيِّدِنَا رَسُولٍ مُسْتَعِيثٍ مُقْتَصِدٍ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! سردار ہمارے رسول فریاد چاہنے والے میزان سوزی کرنے والے

حَلِيمٍ اللَّهُ ۝ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ

بڑبار بندے اللہ کے فریاد چاہنے والے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝ أَعْتَنَّا يَا رَسُولَ التَّفَكُّينِ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! اہل تین دفعہ میں فریاد پہنچو ہم کو اے رسول انسانوں اور جنوں کے!

أَنْتَ حَقٌّ مُنِيبٌ اللَّهُ هُ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

آپ برحق اور صحیح ہو رجم کرنے والے طرف اللہ کے فریاد چاہتے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ وَإِعْظُنَا

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے نصیحت کرنے والے

رَسُولٌ وَرَسُولُهُ الْمَجْتَبَى أَوَّلُ حَبِيبِ اللَّهِ هُ الْمُسْتَفَاتُ

رسول اور رسول اللہ کے ایسے رسول کہ برگزیدہ ہیں پہلے ہیں حبیب اللہ کے فریاد چاہتے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ هُ أَكْرَمُنَا رَسُولٌ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ أَخْرَجَ عَزِيزُ اللَّهِ هُ

اللہ کے بزرگ ہمارے رسول صاحب شریعت کے آفران والے غلبہ دیے گئے اللہ کے

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

فریاد چاہتے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ أَهْلُ التَّقْوَى رَسُولٌ صَاحِبُ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! صاحب پرہیزگاری کے رسول صاحب

الطَّرِيقَةِ شِفَاءً فَصَبِّحْ اللَّهُ هُ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ

طریقت کے تندرستی دینے والے امر صلیبیٰ خوش گفتار اللہ کے فریاد چاہتے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ أَمَّنَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے ایمان لاتے

يَا أَنْتَ نَبِينَا رَسُولٌ صَاحِبُ الْحَقِيقَةِ مُضَرَّى

ہم ساتھ نبوت نبیری کے نبی ہمارے رسول صاحب حقیقت کے طرف اولاد مضر کے

بَشِيرٌ اللَّهُ هُ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

خوشخبری دینے والے اللہ کے فریاد چاہتے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ إِمَامُ الْأُمَمِ مُحَمَّدٌ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! پیشوا امتوں کے محمد

صَاحِبُ الْمَعْرِفَةِ بَرَّهَانَ رَحْمَتِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

صاحب معرفت کے وسیلہ رحمت اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُپر تیرے اے رسول

اللَّهُ كَبِيرٌ يَا رَسُولَ صَاحِبِ الْجَنَّةِ ظَاهِرٌ كَرِيمٌ اللَّهُ

اللہ کے بزرگ ہمارے رسول صاحب بہشت کے غالب سخی اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَنَدُ الْعَاصِمِينَ رَسُولَ صَاحِبِ

اُپر تیرے اے رسول اللہ کے! تنبیہ گاہ گنہگاروں کے رسول صاحب

الْجَنَّةِ فَارِقُ جَهَنَّمَ سُلْطَانُ تِهَامِيٍّ مَوْمِنٌ اللَّهُ

بہشت کے اور خالی کرنے والے دوزخ کے بادشاہ تہامی یعنی محترمہ معظمہ والے ایمان لانے والے بندے اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقِيهُنَا رَسُولَ صَاحِبِ

اُپر تیرے اے رسول اللہ کے داننا ہمارے رسول صاحب

الصِّرَاطِ مُبَلِّغُ عَاقِبِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

صراط کے پہنچانے والے پیچھے آنے والے نبی اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُپر تیرے اے

رَسُولَ اللَّهِ أَمَّنَّا بِكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا رَسُولَ صَاحِبِ

رسول اللہ کے! ایمان لاتے ہم تجھ پر تو ہے والی ہمارا رسول صاحب

الشَّفَاعَةِ بَاطِنُ خَلِيلِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

شفاعت کے باطن ہونے والے دوست اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُوپر تیرے

يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِيدُ عَوَامِنَا رَسُولُ صَاحِبِ

اے رسول اللہ کے گواہی دینے والے ہم سب کے رسول صاحب

التَّاجِ مُحَمَّدٍ يَا ذِينَ اللَّهِ أَلْمُسْتَعَانُ إِلَى

پچھتر کے آزاد کرنے والے ساتھ اذن اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ وَمِنَ النَّارِ مَخْلَصُنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْمِحْرَابِ

اللہ کے اور اس آگ دوزخ سے خلاصی دینے والے ہم کو رسول صاحب محراب کے

حَاشِرُ نَبِيِّ اللَّهِ أَلْمُسْتَعَانُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

جمع کرنے والے نبی اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِّنَ

درود اور سلام اُوپر تیرے اے رسول اللہ کے افضل سب

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مَحْبُوبُنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْمِنْبَرِ

نبیوں سے اور صدیقوں سے محبوب ہمارے رسول صاحب منبر کے

خَطِيبِ رَحْمَةِ اللَّهِ أَلْمُسْتَعَانُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

خطاب کرنے والے رحمت اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُبَشِّرُنَا

تعالیٰ کے درود اور سلام اُوپر تیرے اے رسول اللہ کے! خوشخبری دینے والے ہم کو

رَسُولُ صَاحِبِ الْبَيْتِ عَامِرُ كَعْبَةِ اللَّهِ أَلْمُسْتَعَانُ

رسول صاحب بیت اللہ کے آباد کرنے والے کعبۃ اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اُوپر تیرے اے

رَسُولَ اللَّهِ ۝ أَكْبَرْنَا رَسُولَ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ عَالِمٍ

رسول اللہ کے بزرگ ہمارے رسول صاحب معراج کے عالم

غَنِيُّ اللَّهِ ۝ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

غنی اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝ نَبِيُّ خَيْرِ الزَّمَانِ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے نبی احمد زمانے کے

رَسُولَ صَاحِبِ الْإِجْتِهَادِ مُنْتَقِمٌ مِّمَّنْ كَرَّمَ اللَّهُ ۝

رسول صاحب اجتہاد کے بدلہ لینے والے بزرگ کیے گئے اللہ کے

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝ وَرَفِي الدِّينِ صَادِقُنَا رَسُولٍ

اوپر تیرے اے رسول اللہ کے اور رفیع دین کے راست گو ہمارے رسول

صَاحِبِ الْقِيَامَةِ نَاطِقٌ شَفِيعٌ اللَّهُ ۝ الْمُسْتَفَاتُ

صاحب قیامت کے بولنے والے شفاعت کرنے والے اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللَّهُ ۝ مُشَفَّعُ الْأُمَّةِ يُعِينُنَا بِالشَّفَاعَةِ رَسُولَ صَاحِبِ

اللہ کے شفاعت قبول کیے گئے واسطے امت کے مدد کرنے والے ہمارے ساتھ شفاعت رسول صاحب

النَّبُوَّةِ مُحَمَّدٌ نَبِيُّ اللَّهِ ۝ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

نبوت کے حرمت کیے گئے نبی اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝ وَنَبِيِّ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے اور نبی

الرَّحْمَةِ سَابِقُنَا رَسُولَ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ حَرِيصٌ

رحمت کے اول ہمارے رسول صاحب دو جہانوں کے رعبت کرنے والے

رَوْفُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

مہربان بندے اللہ کے فریاد چاہنے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

اور سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! سردار جنوں اور انسانوں کے

فَا هَذَا نَبِيُّنَا رَسُولُ صَاحِبِ النِّعْمَةِ هَذَا شَيْءٌ كَرَامَةٌ

منہ کنز و ابروئے کاموں سے نبی ہمارے رسول، صاحب نعمت کے اولاد حضرت ہاشم کے بزرگ

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

اللہ کے فریاد چاہنے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُهْتَرِبُنَا رَسُولُ إِلَى

سلام اوپر تیرے اے رسول اللہ کے! نزدیک کرنے والے ہم کو رسول طرف

رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ

رحمت اللہ تعالیٰ کے لاکھ درود اور سلام

عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى صَلَّى اللَّهُ

اوپر رسول خدا کے جو برگزیدہ ہے اور حبیب خدا کے جو برگزیدہ ہے درود اللہ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا يَا بَكْرُ الثَّقَفِيِّ

تعالیٰ کا ہو اُس پر اور اُس کی آل پر اور سلام اے بارخدا یا! رحمت کر حضرت ابو بکر پر کہ ثقفی ہے

وَعُمَرَ النَّقِيِّ وَعُثْمَانَ الزُّرَيْكِيِّ وَعَلِيَّ الْوَرَقِيِّ أَسَدَ اللَّهِ

اور حضرت عمر پر کہ پاک ہے اور حضرت عثمان پر کہ پاک ہے اور حضرت علی پر کہ شیر خدا کا

الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى

برگزیدہ ہے اور حضرت فاطمہ زہرا پر اور حضرت خدیجہ بزرگ پر

وَعَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ الْعُلْيَا وَالْحَسَنَ الرِّضَى وَ

اور حضرت عائشہ صدیقہ بلند مرتبہ پر اور حضرت امام حسن صاحب رضا پر اور

الْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ الْمُجْتَبَى وَشُهَدَاءَ الْكُرْبَلَا

حضرت امام حسین شہید برگزیدہ پر اور جمیع شہدائے کربلا پر

وَالسَّعْدَ وَالسَّعِيدَ وَالطَّلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

اور حضرت سعدؓ اور حضرت سعیدؓ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ اور حضرت عبد الرحمنؓ

ابْنَ عَوْفٍ وَأَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الْجَرَّاحِ الْعَشْرَةَ

بن عوفؓ پر اور حضرت ابو عبیدہ بن جرّاحؓ پر دس اصحابؓ کہ

الْمُبَشِّرِينَ وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْخُلَفَاءَ

خوشخبری دینے والے گئے ہیں جنت کی اور تمام اصحابؓ پر اور تابعینؓ پر اور خلفائے

الرَّاشِدِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُ

رہنمائی کرنے والوں پر راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب پر

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي

اے بارخدا! بخش مجھ کو اور واسطے ماں باپ میرے کے اور رحم کر ان دونوں پر جیسا کہ پرورش کیا انہوں

صَغِيرًا وَأَغْفِرْ لَهُمْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ

نے میری طفولیت میں اور بخش مجھ کو اے بارخدا! واسطے تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے زندوں کو ان سے اور مردوں کو

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اپنی رحمت کے ساتھ اے بہت مہربان سب مہربانوں سے۔

www.fair

سلسلہ چشتیہ نظامیہ

هَذِهِ سِلْسِلَةٌ چِشْتِيَّةٌ بِهَشْتِيَّةٍ نِظَامِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ

سب تعریف واسطے اللہ کے پالنے والا جہانوں کا اور برج عاقبت کے واسطے پرہیزگاروں کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِیْنَ

دُور اور سلام اوپر اس کے رسول کے کہ نام اُن کا محمد ہے اور اُن کی آل پر سب کے

اَمَّا بَعْدُ فَهَذِهِ سِلْسِلَتِيْ مِنْ مَّشَائِخِيْ فِي الطَّرِیْقَةِ

اس کے بعد پس یہ سلسلہ میرا میرے مشائخوں کا یعنی طریقہ

الچِشْتِيَّةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ ۝

چشتیہ کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب سے

اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْكُوْنِیْنَ وَرَسُوْلِ الثَّقَلِیْنَ

اے بار خدایا! بظہیر سردار دو جہانوں کے اور رسول دو جہان کے

حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ۝

حضرت محمد برگزیدہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ اوپر ان کے اور سلام

اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ مَدِیْنَةِ الْعُلُوْمِ وَالْمَطَالِبِ اِمَامِ

اے بار خدایا! بظہیر شہر علموں اور مقصودوں کے پیشوا

الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِمَامِ

مشرقوں اور مغربوں کے سردار مومنوں کے اور پیشوا

الْأَشْجَعَيْنِ عَلِيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ ۝

بہادوروں کے حضرت علی بیٹے ابی طالب کے بزرگ کرے اللہ تعالیٰ منہ ان کے کو

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ أَبِي

اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ ابی

النَّصْرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي

النصر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ أَبِي الْفَضْلِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ ابی الفضل

عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي

عبد الواحد بیٹے زید کے رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ أَبِي الْفَيْضِ فَضِيلٍ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ ابی الفیض فضیل

ابْنِ عِيَّاضٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

بیٹے عیاض کے رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ أَمَانَ الْأَرْضِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سُلْطَانَ إِبْرَاهِيمَ

بزرگوں کے امن دینے والے زمین کے حضرت خواجہ سلطان ابراہیم

أَدْهَمَ الْبَلْخِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

بیٹے ادہم کے بلخ کے رہنے والے رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِ الدِّينِ حُذَيْفَةَ

بزرگوں کے حضرت خواجہ سید الدین حذیفہ

الْمَرْعَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

مرعشی رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ أَمِينِ الدِّينِ أَبِي هُبَيْرَةَ

بزرگوں کے حضرت خواجہ امین الدین ابی ہبیرہ

الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

بصری کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ مَشَارِدِ عَلَوِ الدِّينِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

حضرت خواجہ مشارد علو الدینوری راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ سَرِيسِلَةَ چشتِيَانِ

ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے سردار سلسلہ چشتیوں کے

خَوَاجَةِ خَوَاجِكَا نِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ أَبِي إِسْحَاقَ شَامِي

خواجہ بزرگوں کے حضرت خواجہ ابی اسحاق شامی کے رہنے والے

چِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

قُدْوَةَ الْحَقِّ وَالذِّينِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ أَبِي أَحْمَدِ ابْنِ

برگزیدہ حق اور دین کے حضرت خواجہ ابی احمد بیٹے

فَرِسَانَةَ الْچِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

فرسانہ کے چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِجِ قُطْبِ الْحَقِّ وَالذِّينِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

بزرگ بزرگوں کے قطب حق اور دین کے حضرت خواجہ

مُحَمَّدِ ابْنِ أَحْمَدِ چِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي

ابی محمد بن احمد چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ نَاصِرِ الْحَقِّ وَ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ ناصر الحق اور

الذِّينِ أَبِي يُوْسُفَ چِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي

دین کے ابی یوسف چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ قُطْبِ الْحَقِّ وَ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ قطب حق اور

الدِّينِ مَوْدُودٍ حَشِيَّتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ

دین کے مودود چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ مَخْدُومِ حَاجِي شَرِيفِ

بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ مخدوم حاجی شریف

زَنْدَنِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

زندنی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

مُقْتَدَاءِ أَهْلِ عِرْفَانِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ عُثْمَانَ هِرَوَنِي

پیشوا اہل عرفان کے حضرت خواجہ عثمان ہررونی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

قُطْبِ الْعَارِفِينَ سَنَدِ الْمَوْحِدِينَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

قطب عارفوں کے یکہ گاہ موحدین کے حضرت خواجہ

بَزْرُغٍ مُعِينِ الْحَقِّ وَالِدِ الدِّينِ حَسَنِ سَنَجَرِي شُرَّ

بزرگ مدد دینے والے حق اور دین کے حسن سنجر کے رہنے والے پھر

أَجْمِيرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

اجمیر کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ بُرْهَانَ چَشْتِيَّانِ شَهِيدِ الْمَحَبَّةِ حَضْرَتِ

بزرگوں کے وسیل چشتیوں کے شہید محبت الہی کے حضرت

خَوَاجَةِ قُطْبِ الْحَقِّ وَالِدِ الدِّينِ بَخْتِيَارِ أَوْشِي كَاكِي

خواجہ قطب حق اور دین کے بختیار اوشی کاکی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَرِيْقِ الْمَحَبَّةِ إِمَامِ الْعَارِفِينَ سُلْطَانَ الزَّاهِدِينَ

جلنے والے محبت الہی کے پیشوا عارفوں کے بادشاہ زاہدوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ فَرِيدِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ مَسْعُودِ

حضرت خواجہ فرید حق اور دین کے مسعود

كُنْجِ شُكْرِ الْأَجْوَدِ هِنِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى

کنج شکر اجود صنی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سُلْطَانَ الْعَاشِقِينَ مُحِبِّ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے سلطان عاشقوں کے محبت حضرت

رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ مَحْبُوبِ الْهِى حَضْرَتِ خَوَاجَةِ نِظَامِ

محمد کہ رحمت ہیں جہانوں کے محبوب اللہ تعالیٰ کے حضرت خواجہ انتظام کرنے والے

الْحَقِّ وَالِدَيْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَحْمَدَ بَدَاوَانِي رَضِيَ اللَّهُ

حق اور دین کے محمد بیٹے احمد کے بدادانی بخساری

تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

مُسْتَعْرِقِ بَحْرِ الشُّهُودِ بِشَمْسِ الْعَارِفِينَ حَضْرَتِ

ڈوبے ہوئے دریائے شہود میں آفتاب عارفوں کے حضرت

خَوَاجَةِ نَصِيرِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ مَحْمُودِ جِرَاحِ دِهْلَوِي

خواجہ مددگار حق اور دین کے محمود جراح دہلی کے رہنے والے

أَوْدِهِى چِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى بِحُرْمَتِ شَيْخِ

اودھی چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ كَمَالِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ

بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ کمال حق اور دین کے

الْمَشْهُورِ بِعَالَمَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى بِحُرْمَتِ

مشہور مرد عالم راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ سِرَاجِ الْحَقِّ وَ

بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ سراج (الحق و)

الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

الدِّينِ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ عَلِمِ الْحَقِّ وَالِدِ الدِّينِ

بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ علم الحق والدین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ فَرَادِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

خَوَاجَةِ شَيْخِ مُحَمَّدٍ بِعُرْفِ شَيْخِ رَاجِنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

خواجہ شیخ محمود مشہور شیخ راجن راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ

جَمَالِ الْحَقِّ وَالِدِ الدِّينِ بِعُرْفِ شَيْخِ جَمَنِ رَضِيَ اللهُ

شیخ جمال الحق والدین مشہور شیخ جمن راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُطْبِ الْأَوْلِيَاءِ

تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے قطب ولیوں کے

شَيْخِ الْأَتْقِيَاءِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ حَسَنِ مُحَمَّدِ

شیخ پرہیزگاروں کے حضرت خواجہ شیخ حسن محمد

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

مَظْهَرِ اللَّهِ التَّامِّ الصَّمَدِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِ

جگہ ظاہر ہونے نور اللہ کامل بے پرہا کے حضرت خواجہ شیخ محمد

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے یگانہ

فَرْدِ الْحَقِيقَةِ قُطْبِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

حقیقت قطب مدینہ بزرگ کے حضرت خواجہ

شَيْخِ يَحْيَى الْمَدَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

شیخ یحیی مدینے کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا! بطفیل بزرگ

الْمَشَارِخِ الْمُتَخَلِّقِ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ وَالْمُصَوِّفِ بِأَوْصَافِ

بزرگوں کے خود پکڑنے والے ساتھ اخلاق اللہ کے اور صفت کے ہوئے ساتھ اوصاف

اللَّهِ فَإِنِّي فِي اللَّهِ بِأَقْبَى بِاللَّهِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ كَلِيمِ

اللہ کے فنا ہونے والے بیچ ذات اللہ کے اور باقی رہنے والے ساتھ اللہ کے حضرت خواجہ شیخ کلیم

اللَّهِ جِهَانَ أَبَادِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

اللہ جہان آبادی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَارِخِ سِرَاجِ الْوَأَصِلِينَ فَخْرِ الْعَاشِقِينَ حَضْرَتِ

بزرگ بزرگوں کے چراغ سے ہونے والے فخر عاشقوں کے حضرت

خَوَاجَةِ شَيْخِ نِظَامِ الْحَقِّ وَالِدِينَ أَوْرَنْكَ أَبَادِي

خواجہ شیخ نظام الحق والدین اورنگ آباد کے رہنے والے

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

فَخْرِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ مُجِيبِ النَّبِيِّ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

فخر پہلوں اور پیچھلوں کے دوست رکھنے والے حضرت محمد کے حضرت خواجہ

شَيْخِ فَخْرِ الْحَقِّ وَالِدِينَ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

شیخ فخر الحق والدین محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ قَدْوَةَ السَّالِكِينَ شَمْسِ

لے بار خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے برگزیدہ سالکوں کے آفتاب

الْعَارِفِينَ غَرِيبِ نَوَازِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ نُورِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ

عارفوں کے عزیز نواز حضرت خواجہ شیخ نور محمد راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِخِ سُلْطَانِ

اللہ تعالیٰ ان سے لے بار خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے بادشاہ

الْعَاشِقِينَ بُرْهَانَ الْمَعشُوقِينَ خَوَاجَةَ خَوَاجِكَانِ

عاشقوں کے دلیل معشوقوں کے خواجہ خواجگان

الْقَائِمِ مَقَامِ عِبُودِيَّةِ قُطْبِ الزَّمَانِ حَضْرَتِ

قائم مقام عبودیت کے قطب زمانے کے حضرت

خَوَاجَةَ شَيْخِ مُحَمَّدِ سَلِيمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هـ

خواجہ شیخ محمد سلیمان رضی ہو اللہ تعالیٰ عنہ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ عِلْمِ الْحَقِّ وَالذِّينِ

اے بار خدایا! بظہیر بزرگ بزرگوں کے جاننے والے حق کے اور دین کے

شَمْسِ الْعَارِفِينَ وَالْعَاشِقِينَ كَامِلٍ وَمُكْمِلِ حَضْرَتِ

آفتاب عارفوں کے اور عاشقوں کے کامل اور کامل کیے گئے حضرت

خَوَاجَةَ شَيْخِ شَمْسِ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هـ

خواجہ شیخ شمس الدین رضی ہو اللہ تعالیٰ عنہ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ مَظْهَرِ

اے بار خدایا! بظہیر بزرگ بزرگوں کے بادشاہ عاشقوں کے مظہر

رَحْمَةِ لِّلْعَالَمِينَ مَحْبُوبِ إِيَّاهِ حَضْرَتِ خَوَاجَةَ

حضرت محمد کہ رحمت ہیں جہانوں کے محبوب اللہ کے حضرت خواجہ

السَّيِّدِ مَهْرِ عَلِيٍّ شَاهِ الْحَسَنِيِّ الْجِيلَانِي

سید مہر علی شاہ حسنی جیلانی از

كَوْلِ رُؤْيِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هـ إِيَّاهِ بِحُرْمَتِ

گوڑہ مشرف رضی ہو اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اے بار خدایا بظہیر

شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَعْدِنِ أَسْرَارِ الْمَحَبَّةِ مَطْلَعِ

بزرگ بزرگوں کے کان اسرار محبت الہی کے جلتے طلوع

أَنْوَارِ حَقَائِقِ الْمَعْرِفَةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةَ السَّيِّدِ

انوار حقائق معرفت کے حضرت خواجہ سید

غُلَامِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

عِندَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَشْوَاقِ مُشْتَاكِ لِقَاءِ

اے بارِ خدایا بظہیرِ جذبہ ہائے شوقِ تمام جہازوں کے

رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَشَوِّقِ ذَاتِ رَسُولِهِ

رب کا اشتیاقِ ملاقات رکھنے والے اس کے رسولِ امین کی ذات سے شوق

الْأَمِينِ السَّيِّدِ خَوَاجَةِ غُلَامِ مُعِينِ الدِّينِ

محبت رکھنے والے سیدِ خواجہ عِندَ مُعِينِ الدِّينِ

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے

سلسلہ قادریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ط

سب تعریف اسطے اللہ کے پالنے والا جہانوں کا اور درجے عاقبت کے پرہیزگاروں کے لیے

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعِیْنَ ط

اور درود اور سلام اوپر رسول اس کے کہ نام ان کا محمد ہے اور ان کی آل پر سب کے

اَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا سِلْسِلَةٌ مِنْ مَشَائِخِیْ فِی الطَّرِیْقَةِ ط

اس کے بعد پس یہ سیرا سلسلہ میرے مشائخ کا بیچ طریقہ

الْقَادِرِیَّةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ ط

قادریتہ کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب سے

اِلٰہِیْ بِحُرْمَتِ سَیِّدِ الْکَوْنِیْنَ وَرَسُوْلِ الثَّقَلِیْنَ ط

اے بارخدا یا! بطفیل سردار دو جہان کے اور رسول دو جہان کے

حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ط

حضرت محمد برگزیدہ رحمت کرے اللہ اوپر ان کے اور سلام

اِلٰہِیْ بِحُرْمَتِ مَدِیْنَةِ الْعُلُوْمِ وَالْمَطَّلِبِ اِمَامِ ط

اے بارخدا یا! بطفیل علموں کے اور مقصودوں کے پیشوا

السَّشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَامَامِ ط

مشرقوں اور مغربوں کے سردار مومنوں کے اور پیشوا

الْاَشْجَعِیْنَ عَلِیِّ بْنِ اَبِی طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی

بہادوروں کے حضرت علی بیٹے ابی طالب کے بزرگ کرے اللہ تعالیٰ

وَجْهَهُ ۙ إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حُسَيْنٍ

منہ ان کے جو اے بار خدایا! بطفیل سردار مومنوں کے حسینؑ

شَهِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۙ إِلَهِي بِحُرْمَتِ إِمَامِهِ

شہید راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا بطفیل پیشوا

زَيْنِ الْعَابِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۙ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

زین العابدین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا! بطفیل

إِمَامِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۙ إِلَهِي

پیشوا محمد باقر راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا!

بِحُرْمَتِ إِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۙ

بطفیل پیشوا جعفر صادق راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ إِمَامِ مُوسَى الْكَاطِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

اے بار خدایا! بطفیل پیشوا موسیٰ کاظم راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ ۙ إِلَهِي بِحُرْمَتِ إِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى رَضِيَ

ان سے اے بار خدایا! بطفیل پیشوا علی بن موسیٰ رضا

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۙ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

مَعْرُوفِ الْكَرْمَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۙ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

معروف کرمنی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِبِ شَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ سِرِّي سَقَطِي رَضِيَ اللَّهُ

بزرگ بزرگوں کے شیخ ابو الحسن سری سقطی راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ ۙ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ الْأَعْظَمِ

تعالیٰ ان سے اے بار خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے بڑے

حَضْرَتِ شَيْخِ جُنَيْدِ الْبَغْدَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۙ

خواجہ شاہ جنید بغدادی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ شَيْخِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ الشَّيْبَلِيِّ

اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ ابی بکر محمد شبلی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِيَّاهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ

ابی الفضل عبدالواحد بیٹے عبدالعزیز کے راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِيَّاهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ شَيْخِ أَبِي الْفَرَجِ

تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ ابی الفرج

الطَّرْطُوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِيَّاهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ

طرتوسی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَاحِبِ شَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ الْهَنْكَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

بزرگوں کے شیخ ابی الحسن علی ہنکار کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ ۞ إِيَّاهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ شَيْخِ أَبِي سَعِيدِ عَلِيِّ

ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ ابو سعید علی

الْمُبَارَاكِ الْخَزْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِيَّاهِ بِحُرْمَتِ

مبارک مخزومی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِبِ حَضْرَتِ شَيْخِ قُطُبِ رَبَّانِي غَوْثِ صَمَدَانِي

بزرگ بزرگوں کے حضرت شیخ قطب اللہ کے مقبول اللہ تعالیٰ کے

مَحْبُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَبِيرِ سُلْطَانِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي

محبوب رب العالمین کے بادشاہ سردار عبدالقادر جیلانی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِيَّاهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

ضِيَاءِ الدِّينِ أَبِي الْجَبِّبِ عَبْدِ الْقَاهِرِ سَهْرُورِيِّ

ضیاء الدین ابی نجیب عبدالقاهر سہروردی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ الْأَنْدَلُسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي

عمار بن یاسر اندلسی راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ نَجْمِ الدِّينِ الْكُبْرَى رَضِيَ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ نجم الدین الکبریٰ راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ مَجْدِ

اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

الدِّينِ بَعْدَادِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ

مجد الدین بعدادی راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ رَضِيَ الدِّينِ الْمَعْرُوفِ بَعْلَى لَآكَا

بزرگ بزرگوں کے شیخ رضی الدین المعروف بعام علی لالا

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ نُورِ الدِّينِ الْمَعْرُوفِ بِالْكَبْرَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

شیخ نور الدین المعروف بالکبریٰ مشہور بعام بزرگ بزرگوں کے

عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ عَلَاءِ الدَّوْلَةِ

اُن سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ علاء الدولہ

سَمْنَانِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

سمنانی راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ شَيْخِ مُحَمَّدِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ

بزرگوں کے شیخ محمود راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ قُطْبِ الْأَقْطَابِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِي

بزرگ بزرگوں کے شیخ قطب قطبوں کے علی ہمدانی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارِ خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

إِسْحَاقَ خَتَلَانِي الْحُسَيْنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي

اسحق ختلانی حسینی راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارِ خدایا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ سَيِّدِ السَّادَاتِ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ سردار سرداروں کے سید محمود

نُورِ بَخْشِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

نور بخش راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارِ خدایا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ شَيْخِ مُحَمَّدِ غِيَاثِ نُورِ بَخْشِ رَضِيَ

بزرگوں کے حضرت شیخ محمد غیاث نور بخش راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ

اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارِ خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

شَيْخِ مَظْهَرِ الصَّهْبِ حَضْرَتِ شَيْخِ مُحَمَّدِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

شیخ جگہ ظاہر ہونے نور اللہ کے حضرت شیخ محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ فَرْدِ الْحَقِيقَةِ قُطْبِ

اُن سے لے بارِ خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے یگانہ حقیقت کے قطب

الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ شَيْخِ يَحْيَى الْمَدَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞

مدینہ شریف کے شیخ یحییٰ مدنی راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ فَاثِي فِي اللهِ حَضْرَتِ شَيْخِ كَلِيمِ

لے بارِ خدایا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے فانی بیچ راستے اللہ کے حضرت شیخ کلیم

اللَّهُ جَهَانَ أَبَادِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

اللہ جہان آبادی راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے لے بارِ خدایا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ سِرَاجِ الْوَأَصِلِينَ فخرِ الْعَاشِقِينَ حَضْرَتِ شَيْخِ

بزرگوں کے چراغِ واصلوں کے فخرِ عاشقوں کے حضرت شیخ

نِظَامِ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

نظام الدین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا بطفیل بزرگ

الْمَشَاحِجِ فَخِرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مُحِبِّ النَّبِيِّ حَضْرَتِ

بزرگوں کے فخر پہلوں کے اور پچھلوں کے دوستدار نبی کے حضرت

فَخِرِ الْحَقِّ وَالِدِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ أَوْرَنَكَ إِبَادِي رَضِيَ اللهُ

فخر (الحق) والدین محمد اورنگ آبادی راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ مُحِبِّ الْعَاشِقِينَ

تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے دوستدار عاشقوں کے

مُحِبِّوْبِ الْمَعْشُوقِينَ مَظْهَرِ اللَّهِ الْأَحَدِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

محبوب معشوقوں کے جگہ ظاہر ہونے اللہ تعالیٰ کے حضرت خواجہ

نُورِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

نور محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَاحِجِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ بُرْهَانَ الْمَعْشُوقِينَ الْقَائِمِ

بزرگوں کے بادشاہ عاشقوں کے دلیل معشوقوں کے قائم

مَقَامِ الْعِبُودِيَّةِ قُطْبِ الزَّمَانِ خَوَاجَةِ خَوَاجِكَانِ حَضْرَتِ

مقام عبودیت کے قطب زمانہ کے بزرگ بزرگوں کے حضرت

مُحَمَّدِ سَيِّمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

محمد سیمان راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَمْسِ الْفَلَكَ وَالْمَلَّةِ وَالِدِ الدِّينِ حَضْرَتِ

بزرگ بزرگوں کے آفتاب آسمان کے اور دین کے حضرت

شَيْخِ شَمْسِ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

شیخ شمس الدین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِجِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ مَظْهَرِ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ

بزرگ بزرگوں کے بادشاہ عاشقوں کے جگہ ظاہر ہونے رحمت کی کہ رحمت جانوں کے ہیں

مَجْبُوبِ الْهِىَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ السَّيِّدِ مِهْرِ عَلِي شَاهِ

محبوب اللہ کے حضرت خواجہ سید مہر علی شاہ

أَحْسَنِي أَيْحِيَا لَانِي كَوْلُ رُوي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِىَ

حسنی، جیلانی، از گولڑہ شریف راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَعْدِنِ أَسْرَارِ الْمَحَبَّةِ مَطْلَعِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے کان اسرار محبت کے جلتے طلوع

أَنْوَارِ حَقَائِقِ الْمَعْرِفَةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ السَّيِّدِ غُلَامِ

انوار حقائق معرفت کے حضرت خواجہ سید غلام

مُحِي الدِّينِ شَاهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِىَ بِحُرْمَتِ

محمی الدین شاہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل

أَشْوَاقِ مُشْتَاكِ لِقَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جذبہ ہائے شوق تمام جہانوں کے رب کا اشتیاق ملاقات رکھنے والے

مُتَشَوِّقِ ذَاتِ رَسُولِهِ الْأَمِينِ السَّيِّدِ

اس کے رسول امین کی ذات سے شوق محبت رکھنے والے سید

خَوَاجَةِ غُلَامِ مَعِينِ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ

خواجہ غلام معین الدین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے -

هَذِهِ سُلْسَلَةٌ قَادِرٌ عَلَيْهَا جَدِّي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

تمام تعریفیں اللہ کے جو جہانوں کا رب ہے اور درجے عاقبت کے پرہیزگاروں کے لیے ہیں

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

اور درود اور سلام اوپر اس کے رسول محمد اور آل ان کی سب پر

أَمَّا بَعْدُ فَهَذِهِ سُلْسَلَةٌ مِنْ مَشَائِخِي فِي الطَّرِيقَةِ

اس کے بعد پس یہ سلسلہ میرے مشائخ کا بیج طریقت

الْقَادِرِيَّةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

قادریتہ کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب پر

إِلَهِي بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَرَسُولِ الثَّقَلَيْنِ

اے بارخدا یا بطفیل سردار دو جہان کے اور رسول دو جہان کے

حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت محمد برگزیدہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان پر اور سلام

إِلَهِي بِحُرْمَتِ مَدِينَةِ الْعُلُومِ وَالْمَطَالِبِ أَمَامِ

اے بارخدا یا بطفیل شہر علموں اور مقصودوں کے پیشوا

الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأْسِ

مشرقوں اور مغربوں کے سردار مومنین اور پیشوا

الْأَشْجَعِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ

بہادوروں کے حضرت علیؑ بیٹے ابی طالب کے بزرگ کرے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ أَبِي النَّصْرِ

لے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ ابی نصر

الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ

حسن بصری راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِجِ صَاحِبِ الصِّدْقِ وَالصَّفَا حَيْبِ الْعَجَبِيِّ

بزرگ بزرگوں کے صاحب صدق و صفا حیب عجبی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ صَاحِبِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے صاحب

الْوِلَايَةِ وَالْهُدَايَةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ دَاوُدَ الطَّائِي

ولایت اور ہدایت کے حضرت خواجہ داؤد طائی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ صَاحِبِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے صاحب

الْفَقْرِ وَالْتَّمَكِينِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ مَعْرُوفِ الْكَرْمَلِيِّ

فقر اور تمکین کے حضرت خواجہ معروف کرملی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

صَاحِبِ الذِّكْرِ وَالزُّهْدِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سِرِّي سِقَطِي

صاحب ذکر اور زہد کے حضرت خواجہ سری سقطی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

صَاحِبِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ مَالِكِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ حَضْرَتِ

صاحب علم اور حلم کے مالک ظاہر اور باطن کے حضرت

خَوَاجَةِ شَاهِ جُنَيْدِ الْبُعْدَايِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ

حضرت شیخ جنید بغداد کے رہنے والے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ خَوَاجَةِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ

اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے خواجہ ابی بکر محمد

النَّبِيلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

شبلی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ التَّمِيمِيِّ

حضرت خواجہ شیخ ابی افضل عبد الواحد تمیمی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

صَاحِبِ الْفَقْرِ وَالْهُدَى حَضْرَتِ خَوَاجَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ

صاحب فقر اور ہدایت کے حضرت خواجہ شیخ عبد

الْعَزِيزِ يَمِينِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

العزیز یمینی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ شَيْخِ أَبِي الْفَرَجِ عَلَاءِ الدِّينِ طَرطُوسِي رَضِيَ

بزرگوں کے شیخ ابی الفرج علاء الدین طرطوسی راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

خَوَاجَةِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞

خواجہ شیخ ابی حسن قرشی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ أَبِي سَعِيدٍ عَلِيِّ الْمُبَارَكِ

اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے ابی سعید علی مبارک

الْمَحْزُومِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

محزومی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ قُطْبِ الْأَقْطَابِ فَرْدِ الْأَحْبَابِ مَحْبُوبِ سُبْحَانِي

بزرگوں کے قطب قطبوں کے یگانہ احباب کے محبوب رب العالمین کے

إِمَامِ الثَّقَلَيْنِ مُجَى الدِّينِ سَيِّدِنَا عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي

پیشوا دو جہانوں کے زندہ کرنے والے دین کے سردار ہمارے عبدالقادر جیلانی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَالْهِىَ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

خَوَاجَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَالْهِىَ

خواجہ شیخ عبد الرزاق راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَاهِ نُورِ الدِّينِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ شاہ نور الدین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَالْهِىَ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

خَوَاجَةِ شَاهِ اِحْيَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَالْهِىَ بِحُرْمَتِ

خواجہ شاہ احیاء راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ بَهَاءِ الدِّينِ مُوسَى رَضِيَ اللهُ

بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ بہاء الدین موسیٰ راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَالْهِىَ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ

تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ

شَيْخِ فَرَسِ شَاهِ قَوْتِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَالْهِىَ بِحُرْمَتِ

شیخ فرس شاہ قوتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ أَحْمَدُ قُدُّوسِ رَضِيَ اللهُ

بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ احمد قدوس راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَالْهِىَ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ

الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْمَغْرَبِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَالْهِىَ

شیخ محمد مغربی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ عبد الحق

الْمَغْرِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

مغربی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ الشَّيْخِ عَبَّاسِ الْيَاسِرِ

بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ عباس الیاس

الْمَغْرِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

مغربی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ الشَّيْخِ مِيرَانَ شَاهِ رَضِيَ اللَّهُ

بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ میراں شاہ راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ

الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

شیخ عبد اللہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ الشَّيْخِ مِيرَانَ مُقَارِبِ رَضِيَ

بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ میراں مقارب راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ صَاحِبِ

اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے صاحب

الْعِرْفَانِ وَالسَّخَا حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِ شَاهِ فَاضِلِ

عرفان اور سخاوت کے حضرت خواجہ سید شاہ فاضل

قَلَنْدَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

قلندر راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے لے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ ثَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

حضرت خواجہ سید عبدالقادر ثانی راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هُ الْاِلهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ غَرِيبِ نَوَازِ حَضْرَتِ

اُن سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے عزیز نواز حضرت

خَوَاجَهٗ مُظَفَّرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ

خواجہ مظفر راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ

الْمَشَايِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ شَاهِ سَبْرِ پَانِي پَتِي رَضِيَ اللهُ

بزرگوں کے حضرت خواجہ شاہ سبز پانی پتی راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ حَضْرَتِ شَاهِ

تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت شاہ

لَعَلَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ

لعل راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

صَاحِبِ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ شَاهِ سَرْمَسْتِ

صاحب عزت اور بزرگی کے حضرت خواجہ شاہ سمرست

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ حَضْرَتِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

خَوَاجَهٗ شَيْخِ يَارْمَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِ

خواجہ شیخ یارمحمد راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا!

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ شَيْخِ عَابِدِ شَاهِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ شیخ عابد شاہ

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے

سَيِّدِ السَّادَاتِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ سَيِّدِ رَسُولِ رَضِيَ اللهُ

سردار سرداروں کے حضرت خواجہ سید رسول راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ

تعالیٰ اُن سے اے بارخدا یا! بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ

سَاتِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَشْهُورِ بِمُسْكِينٍ شَاهٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

ساتین علی محمد مشہور بنام مسکین شاہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِخِ صَاحِبِ الزُّهْدِ وَالْعِرْفَانِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

اے بار خدایا! بظہیل بزرگ بزرگوں کے صاحب زہد اور عرفان کے حضرت خواجہ

الشَّيْخِ پِيرِ فَضْلِ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

شیخ پیر فضل الدین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا! بظہیل بزرگ

الْمَشَاحِخِ غَوْثِ زَمَانٍ قُطْبِ دَوْرَانِ صَاحِبِ الْعِرْفَانِ وَالْيَقِينِ مَالِكِ

بزرگوں کے غوث زمانہ کے قطب دوران صاحب عرفان اور یقین کے مالک

الصَّخْرِ وَالْتَمَكِينِ الْفَارِغِ عَزَّمَ سَوَى اللَّهِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ السَّيِّدِ

صخر اور تمکین کے فارغ نام سوی اللہ سے حضرت خواجہ سید

مِهْرٍ عَلَى شَاهٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِخِ

مہر علی شاہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے بار خدایا! بظہیل بزرگ بزرگوں کے

مَعْدِنِ أَسْرَارِ الْمَحَبَّةِ مَطْلَعِ أَنْوَارِ حَقَائِقِ الْمَعْرِفَةِ حَضْرَتِ

کان اسرار محبت کے جاتے طلوع انوار حقائق معرفت کے حضرت

خَوَاجَةِ السَّيِّدِ غَلَامِ مُحَمَّدِ الدِّينِ شَاهٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

خواجہ سید غلام محمد الدین شاہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَشْوَاقِ مُشْتَاكِ لِقَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اے اللہ بہ طفیل جذبہ ہائے شوق تمام جہانوں کے رب کا اشتیاق ملاقات رکھنے والے

مُتَشَوِّقِ ذَاتِ رَسُولِ الْآمِينَ السَّيِّدِ خَوَاجَةِ

اس کے رسول امین کی ذات سے شوق محبت رکھنے والے سید خواجہ

غَلَامِ مُعِينِ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

غلام معین الدین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے۔

سلسلہ چشتیہ منطوم


رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے
 کھول دے مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے
 شیخ عبد الواحد ہاسل بقا کے واسطے
 شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے
 پھر پیر البصری صاحب ہدایہ کے واسطے
 شیخ بوہاق قطب چشتیا کے واسطے
 خواجہ ابو یوسف صاحب صفا کے واسطے
 خواجہ عثمان اہل اقتدا کے واسطے
 شیخ قطب الدین قطب الاقنیا کے واسطے
 اور نظام الدین محبوب خدا کے واسطے
 اور کمال الدین کمال اصفیا کے واسطے
 اور علم الحق والدین الہدیٰ کے واسطے
 اور جمال الدین تحنن صاحب صفا کے واسطے

اے خداوند! تو ذات کبریا کے واسطے
 میں ہوا ہوں سخت زار اس بند محنت میں ایسے
 خواجہ بصری حسن کا نام لانا ہوں شفیعی
 فضل کر مجھ پر طفیل خواجہ ابن عیاض
 حضرت خواجہ خذیفہ کے لیے ٹک رحم کر
 خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کر
 خواجہ ابدال احمد بو محمد مقتدی
 خواجہ سودو وحق اور خواجہ حاجی شریف
 والی برصغیر خواجہ معین الدین حسن
 کام کر شیریں طفیل خواجہ گنج شکر
 دل کو روشن کر طفیل شہ نصیر الدین چراغ
 دور کر ظلمت سراج دین و دنیا کے طفیل
 حضرت محمود راجن سرور دنیا و دین

شاہ حسن اور خواجہ شیخ محمد کے طفیل
 فضل کر مجھ پر طفیل شاہ کلید اللہم ولی
 دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم خدیو
 حضرت خواجہ سلیمان دہماں کے دستگیر
 کر کر مجھ پر طفیل خواجہ عالمگیر
 صاحب صدق و صفا عالی مرتبے ریا
 میر بزم عاشقان ہم شمسوار راہ حق
 رخ پہ سہا ہے غلامی معین الدین کا
 بخش دے اپنی محبت قطع کر دے ماسوا

حضرت یحییٰ مدینی مقتدری کے واسطے
 اور نطفہ ام الدین مقبول خدا کے واسطے
 خواجہ نور محمد ہر سنا کے واسطے
 قبلہ حاجات کعبہ ثعنا کے واسطے
 شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے
 خواجہ شہسپر علی نور الوری کے واسطے
 شاہ غلام محی دین و صفا کے واسطے
 شاہ لالہ جی حبیب اولیا کے واسطے
 واسطے پیران شجرہ چشتیا کے واسطے

چونو نور محمد رسالت شاہ سلیمان تافت
 ز نور شمس سلیمان تافت سر علی



سگ درگاہ جیساں شو چو خواہی قرب ربانی
 کہ بر شیراں شرف دار و سگ درگاہ جیلانی

سلسلہ تادریہ جدیدہ منظوم

(حضور قبلہ علم)

فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے
 کھول دے مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے
 خواجہ حبیب اعجمی اسل جیا کے واسطے
 خواجہ معروف کرنی بادشاہ کے واسطے
 شاہ بغدادی حنیفہ اتقیا کے واسطے
 اور عبد الواحد تمیمی صاحب رضا کے واسطے
 شاہ علاؤ الدین طرطوسی صفا کے واسطے
 شاہ مغزوی مبارک اقدامی کے واسطے
 واصلان دین عارف پیشوا کے واسطے
 شاہ نور الدین صاحب پارسا کے واسطے
 شاہ بہاؤ الدین موسیٰ جی عطا کے واسطے
 احمد قدوس شاہ اویس کے واسطے
 شاہ عبدالحق مغرب پڑھنی کے واسطے
 میراں شاہ قادر قمیص باسنا کے واسطے

اے خداوند! تو ذات کبریا کے واسطے
 میں ہوا ہوں سخت عاجز بند غفلت میں سپہ
 خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیق
 کر کر مجھ پر طفیل خواجہ داؤد طی
 حضرت شہ سہری سقطی کے لیے شک رحم کر
 شاہ شبلی کے طفیل اب دل کو میرے شاد کر
 عبد اسد زینبی کی خاطر ہو مجھ پر مہرباں
 از طفیل حسن خرفانی کہ وہ ہے مقتدا
 حضرت شاہ غوث اعظم دستگیر بکریاں
 حضرت عبد الرزاق کو بود شاہ اویس
 حضرت شاہ احیا کاجان دل سے ہوں غلام
 شاہ فرخ شاہ شاقوتی کہ ہے وہ پیشوا
 شاہ مولانا محمد مغربی کا فیض عام
 شاہ عباس الیاس مغربی شد چرم پوش

حضرت میراں مستارب بہنا کے واسطے
 سید عبدلہت اور ثانی ضیاء کے واسطے
 صافی ملاح کشتی باں عصا کے واسطے
 فضل کر شاہ لعل والی خوش لقا کے واسطے
 گوہر شاہ یار محمد بے بہا کے واسطے
 حضرت سید رسول بن ترضی کے واسطے
 اور فضل الدین سادی بہنا کے واسطے
 طوطی باغ طرقت پرہی کے واسطے
 خواجہ شاہ محمد علی شاہ ہشاہ کے واسطے
 شاہ غلام محی الدین در صفا کے واسطے
 شاہ لالہ جی حبیب اولیا کے واسطے
 خاطر اس پیر کامل ہرنا کے واسطے

شاہ عبد اللہ کی شفقت ہر کسی پر عام ہے
 سید شاہ فاضل قلندر عارف صاحب کرم
 شاہ مظفر مہرباں برہنہ غریب و بیگیاں
 حضرت شاہ سبز پانی پتی کا ہے فیض سب
 سید شاہ سرست حضرت صاحب عز و شرف
 پیر عابد شاہ حضرت چشمہ آب حیات
 صاحب عز و شرف مسکین شاہ کا فیض عام
 قمری باغ شریعت پیر سید فضل دین
 نور عظمت گنج وحدت زہیراہ طریق
 میر زہم عاشق ساں ہم شہسوار راہ حق
 رخ پہرا ہے غلامی معین الدین کا
 ڈوب جاتا ہوں خدایا ماتھ میرا تمام لے

نفس شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الخافین

واسطے پیراں شخبہ قادریا کے واسطے

گرہمی خواہی بعصبتے اے برادر! سرری

باش در دنیا محبت خاندان قادری!

مُسَبَّحَاتِ عَشْر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞

سب تعریفیں اللہ کو ہے جو صاحب ہے سارے جہان کا مہربان نہایت رحم والا

مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۞ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ

مالک قیامت کے دن کا خاص تیری بندگی کرتے ہیں اور تیرے سے

نَسْتَعِیْنُ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۞ صِرَاطَ

مدد چاہتے ہیں چلا ہم کو راہ سیدھی راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ لَا غَیْرَ الْمَفْضُوْبِ

ان کی جن پر تو نے فضل کیا نہ جن پر غصے ہوئے

عَلَيْهِمْ وَاَلَا الضَّالِّیْنَ ۞ سَاتِ دَفْعَهُ

اور نہ گمراہوں کی -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ اِلٰهِ

تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے

النَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِیْ

معبود کی بڑائی سے اُس کی جو سنکارے اور چھپ جاتے وہ جو

یُوسِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۞ مِنْ اِجْنَثٍ وَّالنَّاسِ ۞ سَاتِ دَفْعَهُ

خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَ

تو کہہ میں پناہ میں آ رہا صبح کے رت کی ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی اور

مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ

بدی سے اندھیری کی جب سمٹ آوے اور بدی سے عورتوں کی جو

فِي الْعُقَدِ ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

گرہوں میں پھونکیں اور بدی سے بُرا چاہنے والے کے جب لگے ہونے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ وَّ

تو کہہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ کسی کو جنما اور

لَمْ يُوْلَدْ ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

نہ کسی سے جنا گیا اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

قُلْ يَاۤیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ ۙ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

تو کہہ دے اے مشکرو! میں نہیں پوجتا ہوں جس کو تم پوجو

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۙ وَلَاۤ اَنَا عٰبِدُ

اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں اور نہ مجھے پوجنا ہے

مَاۤ اَعْبُدُ ۙ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۙ

جس کو تم پوجو اور نہ تمہیں پوجنا ہے جس کو میں پوجوں

لَكُمْ دِیْنِكُمْ وَاِلٰی دِیْنِ ﴿۱﴾

تمہیں تمہاری راہ اور مجھے میری راہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، جیسا ہے سب کو تھامنے والا نہیں پکڑتی اس کو اونگھ

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ

اور نہ زبند کسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کون

ذَٰلِكُمْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ

ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے جانتا ہے جو خلق کے

اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ

زور و ہرے اور جو پیٹھ پیچھے ہے اور یہ نہیں گھیر سکتے اس کے

عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

علم میں سے کچھ مگر وہ جو چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمان اور زمین کو

وَلَا يَؤُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ لَا اِكْرٰهَ

اور تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا زور نہیں

فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

دین کی بات میں کھل چکی ہے صلاحیت اور بے راہی اب جو کوئی

يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اَسْتَمْسَكَ

منکر ہو مفسد سے اور یقین لاوے اللہ پر اس نے پکڑی

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا اَنْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۝

گرو مضبوط جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سنا اور جانتا ہے

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى

اللہ کا بننے والا ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے

النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَٰهُمْ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُم

آجالے میں اور وہ جو منکر ہیں ان کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو

مِّنَ التَّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

اُجلاے سے اندھیروں میں وہ ہیں دوزخ والے وہ اسی میں

خَلِدُونَ ○ سات دفعہ

رہ پڑے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ

پاک ہے اللہ کو اور سب تعریف واسطے اللہ کے اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ

اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیْمِ ط

بزرگ تر ہے اور نہیں طاقت پھرنے کی گناہوں اور نہیں طاقت عباد کی سوائے تو رفیق اللہ بلند بزرگ کے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

عَدَدَ مَا عِلْمَ اللّٰهِ وَوزِنَةَ مَا عِلْمَ اللّٰهِ وَمِثْلَ مَا عِلْمَ

گنتی اس چیز کی جو جانتا ہے اللہ اور وزن جو جانتا ہے اللہ اور پر کرنا جو جانتا ہے

اللّٰهُ ط تین بار تَبَرَّءْتُ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي وَأَجَاتُ إِلَى

اللہ تیزاڑ ہوا میں پھرنے سے اپنے کے اور قوت سے اور پناہ پکڑی میں نے طرف

حَوْلِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ فِي جَمِيعِ اُمُورِي ط ایک دفعہ

پھرنے کے اور قوت اللہ کی بیچ تمام اپنے کاموں کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَ

اے اللہ! رحمت بھیج اوپر محمد بندے اپنے اور نبی اپنے اور حبیب اپنے اور

رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط سات دفعہ

رسول اپنے نبی امی کے اور ان کی آل اور اصحاب پر اور برکت بھیج اور سلام بھیج۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدِيْ وَ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ

اے اللہ! بخش مجھ کو اور میرے والدین کو اور رسم کر ان پر جیسا کہ بالائے نقول نے مجھ کو

صَغِيْرًا وَّ اغْفِرْ اللّٰهُمَّ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

لوگوں میں اور بخش اے اللہ! واسطے تمام مومنوں مردوں اور مومنوں عورتوں

وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ

اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے زندہ ان میں سے اور مرے ہوئے کے

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۵ سات دفعہ

اپنی رحمت کے ساتھ اے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں سے!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِيْ وَ بِيْهِمْ عَاجِلًا وَّ اَجَلًا فِي

اے اللہ! اے رب! کر میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی اور آہستگی کے ساتھ

الدُّنْيَا وَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَّ لَا تَفْعَلْ

دین اور دُنیا اور آخرت میں وہ بات جو اس کے لیے لائق ہے اور نہ کر

بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۵

ہمارے ساتھ اے مولا ہمارے! وہ کام جو ہمارے لائق نہیں تحقیق تو بخشنے والا مستعمل

جَوَادٌ ۵ كَرِيْمٌ ۵ مَلِكٌ ۵ بَرٌّ ۵ سَؤُوْفٌ ۵ رَّحِيْمٌ ۵

سخی بزرگ بادشاہ پاک مہربان رحم والا

اللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِرَأْفَتِكَ يَا نَافِعٌ وَّ مُرَافِعٌ تَوْفِيْقِيْ مُسْلِمًا وَّ

اے اللہ! ہدایت کر مجھ کو مہربانی اپنی سے اے نفع دینے والے اور بلندی دینے والے فوت کر مجھ کو مسلمان اور

الْحَقِيْقِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۵ چھ دفعہ يَا جَبَّارُ اَكْبَرُ ۵

اے مجھ کو ساتھ نیکوں کے اے زبردست!

هَذِهِ الْأَسْمَاءُ السَّبْعُ مِنْ أَوْلَادِ

یہ نام سات روزدوں

الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ

شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہیں

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَعَنْ جَمَاهِرَاتِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے ساتھ رجوع دل کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہے سبھی دروازہ حشرانہ خدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحیم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ

سب تعریف واسطے اللہ پروردگار عالموں کے اور درجات عاقبت کے واسطے پرہیزگاروں کا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ

وَرُود اور سلام اُس کے رسول پر جو خاتم ہیں نبیوں کے اور ان کی آل

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ أَحَقُّ

اور اصحاب تماموں پر پھر اس کے بعد سردار اور مولانا دلیل حق کے

إلى خلق شيخ عبد الفتاح اور بجلی قدس سرہ عدد و شمار کہ

طرف خلقت کے شیخ عبد الفتاح درجیلانی پاک ہو بھید اس کا شمار ناموں کے جو

آنحضرت رضی اللہ عنہم دعوت آل فرمودہ برائے ہر اسے تو تھے

اس حضرت نے لازم بکڑنا ان دعوات کا فرمایا اور واسطے سب نام کے توجہ کیا

ساختہ کہ آئی توجہ را بعد از صد بار یا پانصد بار اسم خواندہ شود و

کہ اس توجہ کے بعد ایک سو بار یا پانچ سو بار نام پڑھا جائے اور

برکات آل ظاہر و باہر است (اسم اولی) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

برکتیں اس کی ظاہر اور روشن ہیں نام اول نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

یک لک بار و توبہ شریف است إلهی أظهر علی ظاہری

ایک لاکھ بار اور توجہ اس کی یہ ہے اے میرے اللہ! ظاہر کر میرے ظاہر حال پر

سُلْطَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا

بادشاہی نہیں کوئی لائق عبادت کے سوائے اللہ کے نہیں کوئی لائق عبادت کے سوائے اللہ کے نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَقِّقْ بَاطِنِي بِحَقَائِقِ لَا إِلَهَ إِلَّا

کوئی معبود سوائے اللہ کے اور تحقیق کہ باطن میرے پر حقیقتوں کے ساتھ نہیں کوئی لائق عبادت سوائے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَفْرِقْ

اللہ کے نہیں کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے نہیں کوئی لائق عبادت کے سوائے اللہ کے اور مشغول کر

فِيكَ ظَاهِرِي بِحَاظَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اپنی طرف ظاہر میرا ساتھ گھیر لینے کے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْفَظْنِي اللَّهُمَّ بِكَ لِي فِي

اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور نگاہ رکھ مجھ کو لے اللہ! ساتھ تیرے

مَرَاتِبَ وَجُودِكَ وَشُهُودِكَ حَتَّى لَا أَشْهَدَ غَيْرَ أَعْمَالِكَ

مرتبوں ذات تیری کے اور تیرے مشاہد کے تاکہ نہ دیکھوں سوا تیرے کاموں کے

وَصِفَاتِكَ بِوَجْهِ الْحَقِّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اور تیری صفاتوں کے ساتھ ذات حق کے وہ ذات کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اسْمُ ثَانِي) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مگر اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ نام دوسرا اللہ اللہ اللہ

يَا كَلْبَ بَارِ - تَوَجُّهٌ اِنْشِئْتَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ دُنِّي

ایک لاکھ بار توجہ اس کی یہ ہے اے اللہ! اے اللہ! راستہ بتلا

بِكَ عَلَيْكَ وَأَرْزُقْنِي الثَّبَاتَ عِنْدَ وُجُودِكَ مَا أَكُونُ

مجھے اپنے پر اور نصیب کر مجھ کو ثابت رہنا نزدیک ذات اپنی کے یہ کہ ہو جاؤں

مَتَادٍ بَابَيْنِ يَدَيْكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ إِلَهِي

ادب کرنے والا تیرے سامنے اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے بار خدایا!

بِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ ارْزُقْنِي حُبَّكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا

ساتھ بزرگی اور شان تیری کے نصیب کر مجھ کو محبت اپنی اے اللہ! اے اللہ! اے

اللَّهُ إِلَهِي اجْعَلْ قَلْبَ عَبْدِكَ الضَّعِيفِ مَظْهَرًا

اللہ! اے بار خدایا! کر دل بندے اپنے ضعیف کا جگہ ظاہر ہونے کی

لِذَاتِكَ وَمَنْبَعًا لِآيَاتِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ (اسْمُ

واسطے ذات تیری کے اور جگہ پیدا ہونے آیت تیری کے اے اللہ! اے اللہ! نام

ثَلَاث) يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ اِنْشِئْتَ يَا حَيُّ

تیسرا اے حئی! اے حئی! اے حئی! ایک لاکھ بار توجہ اس کی یہ ہے اے زندہ!

يَا حَيُّ يَا حَيُّ أَحْيِنِي حَيَوَةَ طَيِّبَةً وَأَسْقِنِي مِنْ شَرَابِ

اے زندہ! اے زندہ! زندہ رکھ مجھ کو زندگی پاک اور پیلا مجھ کو شراب

مَحَبَّتِكَ أَعْذِبُهُ وَأَطِيبُهُ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ إِلَهِي

محبت اپنی سے بہت پیٹھا اور بہت صاف اے زندہ! اے زندہ! اے بار خدایا!

حَقِّقْ حَيَاتِي بِكَ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ إِلَهِي أَظْهِرْ نُورَ

ثابت کر زندگی میری ساتھ اپنے اے حئی! اے حئی! اے حئی! اے بار خدایا! ظاہر کر نور

حَيَاتِكَ فِي حَيَاتِي يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ إِلَهِي أَحْيِي رُوحِي

زندگی اپنی کا میری زندگی میں اے حئی! اے حئی! اے حئی! اے بار خدایا! زندہ کر روح میرا

حَيَوَةٌ أَبَدِيَّةٌ وَمَتِّعْ سِرِّي بِسِرِّكَ فِي الْحَضْرَةِ الشُّهُودِيَّةِ

ساتھ حیاتی قدیم کے اور نفع مند کر بھید میرا ساتھ بھید اپنے کے وقت حاضر ہونے قیامت کے

وَأَمَلًا قَلْبِي بِالْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِالْعُلُومِ

اور پڑ کر دل میرا ساتھ معرفت خداوندی کے اور ہلا زبان میری ساتھ علوم

اللَّدُنِّيَّةِ يَا حَيُّ يَا حَيُّ (اسْمُ رَابِعٍ) وَاحِدٌ وَاحِدٌ

نزدیکی کے اے حی! اے حی! اے حی! نام چوتھا واحد واحد

وَاحِدٌ يَكُ بارِ تَوَجُّهٍ اِنْسِتْ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ

واحد ایک لاکھ دفعہ اس کی توجہ یہ ہے اے اکیلے اے اکیلے

يَا وَاحِدٌ اجْعَلْنِي مُوَحِّدًا ابْنُورٍ وَحَدَانِيَّتِكَ مُؤَيِّدًا

اے اکیلے کر مجھ کو توحید والوں سے ساتھ نور وحدانیت اپنی کے اور مدد دیا گیا

بِشُّهُودِ فَرَادَانِيَّتِكَ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ اِلٰهِي

ساتھ دیکھنے تنہائی تیری کے اے اکیلے اے اکیلے اے اکیلے اے اکیلے

أَنْتَ الْمُتَوَحِّدُ فِي ذَاتِكَ بِالْوَهْيِيَّتِكَ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ

تو اکیلا ہے اپنی ذات میں ساتھ خدائی اپنی کے اے اکیلے! اے اکیلے!

يَا وَاحِدٌ (اسْمُ خَامِسٍ) عَزِيزٌ عَزِيزٌ عَزِيزٌ يَكُ

اے اکیلے! نام پانچواں عزیز عزیز عزیز ایک

يَكُ بارِ تَوَجُّهٍ اِنْسِتْ يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ اجْعَلْنِي

لاکھ دفعہ اس کی توجہ یہ ہے اے عزیز! اے عزیز! اے عزیز! کر مجھ کو

بِعِزَّتِكَ مِنَ الْأَعَزِّينَ بَيْنَ يَدَيْكَ يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ

ساتھ عزت اپنی کے عزت والوں سے سامنے اپنے اے عزیز! اے عزیز!

يَا عَزِيزٌ اسْتَعْمِلْنِي بِأَعْمَالِ الْأَعَزِّينَ لَدَيْكَ يَا عَزِيزٌ

اے عزیز! کرا مجھ سے کام کام عزت والوں کے اپنی مہربانی سے اے عزیز

يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ اِلٰهِي اَعِزَّنِي بِعِزَّتِكَ يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ

اے عزیز! اے عزیز! اے اللہ! عزت دے مجھ کو بظہیر عزت اپنی کے اے عزیز! اے عزیز!

يَا عَزِيزُ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْاَعَزِّينَ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

اے عزیز! کر مجھ کو اپنے بندوں عزت والوں سے اے عزیز! اے عزیز!

يَا عَزِيزُ (اسْمُ سَادِس) وَهَابٌ وَهَابٌ وَهَابٌ يَكُ

اے عزیز! نام چھٹا وہاب وہاب وہاب ایک

لَكِ بَارَةٌ تَمْشِي اَنْتِ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

لاکھ دفعہ توجہ اس کی یہ ہے اے بخشنے والے! اے بخشنے والے! اے بخشنے والے!

هَبْ لِي مِنْ جَزِيلِ هِبَاتِكَ مَا يَبْلُغُنِي اِلَى مَرْضِيَّاتِكَ

بخش مجھ کو اپنی بڑی بخشش سے وہ جو پہنچاتے مجھ کو طرف رضا مندی تیری کے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِیْ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

اے بخشنے والے! اے بخشنے والے! اے بخشنے والے! اے اللہ! بخش میرے لیے اپنے پاس سے

رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

رحمت تحقیق تو ہے بخشنے والا! اے بخشنے والے! اے بخشنے والے! اے بخشنے والے!

اِلٰهِیْ يَا وَهَّابُ الْاَسْرَارِ هَبْ لِي مِنْ اَسْرَارِكَ فَيُضِغَا

اے اللہ! اے بخشنے والے بھیدوں کے بخش مجھ کو اپنے بھیدوں سے فیض کو

تَجْعَلْنِي بِهِ دَائِمًا مُسْتَحْفِظًا لِمَوَاهِبِكَ يَا وَهَّابُ يَا

کر مجھ کو ساتھ اس کے ہمیشہ حفاظت کرنے والا واسطے بخششوں تیری کے اے بخشنے والے!

وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اَللّٰهُمَّ حَقِّقْنِي بِمَوَاهِبِ حَقِيْقَةِ

بخشنے والے! اے بخشنے والے! اے اللہ! محقق کر مجھ کو ساتھ بخششوں ٹھیک

حَقِيْقَتِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِیْ كُوْنِي شَهِدًا

حقیقت اپنی کے اے بخشنے والے! اے بخشنے والے! اے اللہ! میرا سہنا گواہ ہے

عَلَى الْاِفْتِقَارِ اِلَى غِنَاكَ الْمَطْلُوْقِ الْكَامِلِ بِالذَّاتِ

مجھ پر محتاج ہونے کے تیری مطلق کامل ذاتی بے نیازی کا ذات کے ساتھ

فَاَمِّنْ عَلٰی عَبْدِكَ الضَّعِيْفِ بِغَنٰی اَكُوْنُ بِهٖ غَنِيًّا مُغْنِيًّا

پس احسان کر اپنے بندے ضعیف پر بے پروائی کے ساتھ ہو جاؤں میں اس سے غنی بے پروا

مَنْ شَدَّتْ غَنَاهُ بِوَصْفِ الْفَقْرِ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ

جسے تو چاہے بے پروائی دے ساتھ صفت فقر کے سامنے اپنے تو بے پروا ہے

الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ (اسْمُ سَابِع)

بخشنے والا! اے بخشنے والے! اے بخشنے والے! نام ساتواں

وَدُودٌ وُدُّوْهُ وُدُّوْهُ وُدُّوْهُ عِدَّةُ آلِ يَكْ لَكِ بَارٍ - تُوْبُهُ شِئْنٌ اِيْنِسْت

وَدُودٌ وُدُّوْهُ وُدُّوْهُ گنتی اس کی ایک لاکھ دفعہ توجہ اس کی یہ ہے

يَا وُدُّوْهُ يَا وُدُّوْهُ يَا وُدُّوْهُ اِجْعَلْ قَلْبِي وَاذَّكَ يَا وُدُّوْهُ

اے دوست! اے دوست! اے دوست! کر میرے دل کو دستار واسطے اپنے اے دوست!

يَا وُدُّوْهُ يَا وُدُّوْهُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ وُدَّ اَفِيْ قُلُوْبِ عِبَادِكَ

اے دوست! اے دوست! اے اللہ! بخش مجھ سے دوستی بیچ دلوں بندوں اپنے

الْمُؤْمِنِيْنَ يَا وُدُّوْهُ يَا وُدُّوْهُ يَا وُدُّوْهُ اَللّٰهُمَّ اِكْفِنِيْ شَرَّ

مومنوں کے اے وُدُّوْهُ! اے وُدُّوْهُ! اے اللہ! بند کر مجھ سے شرارت

مَنْ كَفَّايْتَهُ بِبَيْدِكَ يَا وُدُّوْهُ يَا وُدُّوْهُ يَا وُدُّوْهُ ط

اس کی جس کا بند کرنا تیرے ہاتھ میں ہے اے وُدُّوْهُ! اے وُدُّوْهُ! اے وُدُّوْهُ! -

www.faiiz-eth.com

دُعَاءِ سُنَّتِ عَصْرٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ

اے ہمیشہ فضل کرنے والے خلقت پر اے کھلے ہاتھوں والے!

بِالْعَطِيَّةِ وَيَا صَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ وَيَا

ساتھ بخشش کے اور اے صاحب بڑی بخششوں عام کے اور اے

دَافِعَ الْبَلَاءِ وَالْبَلِيَّةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى

دور کرنے والے بلا اور مصیبتوں کے رحمت بھیج محمد پر جو مخلوقات سے

فِي السَّجِيَّةِ وَعَلَى إِلَهِ الْبَرَّةِ النَّقِيَّةِ وَاعْفِرْ لَنَا

پہترغوا لے ہیں اور اُدپر آل اس کی پاک صاف کے اور بخشش ہم کو

يَا ذَا الْهُدَى الْعُلَى فِي هَذَا الْعَصْرِ وَ

اے صاحب ہدایت بلند کے اس عصر میں اور

الْعِشِيَّةِ رَبَّنَا تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ

عشا میں اے رب ہمارے! فوت کر ہم کو اسلام کی حالت میں اور ملا ہم کو نیکوں سے

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

رحمت بھیج محمد پر اور اس کی آل اور اصحابوں سب پر

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اپنی رحمت سے اے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے۔

این درود کبریتِ احمر است

یہ درود کبریتِ احمر ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدًا وَاَنْسَمِيْ بَرَكَاتِكَ

اے اللہ! نازل کر تو بہترین درودوں اپنے کو گنتی میں اور زیادہ تر برکتوں اپنی کو

سَرْمَدًا وَاَنْزِلْ لِيْ تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّمَدَدًا عَلٰى اَشْرَفِ

ہمیشہ اور پاکیزہ تر سلاموں اپنے کو از روتے زیادتی اور مدد کے اوپر بزرگ ترین

اَحْقَابِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَمَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ

اصول انسانیہ کے اور کان باریکیوں ایمانیہ کے

وَطُوْرِ التَّجَلِّيَّاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ وَمَهَبَطِ الْاَسْرَارِ

اور پہاڑ بزرگ روشنیوں احسانیہ کے اور جگہ اترنے بھیدوں

الرَّحْمٰنِيَّةِ وَوَاِسْطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّنَ وَمُقَدَّمَةِ

خدا کے اور پیوند سینے والے گروہ پیغمبروں کے اور پیش رو

جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاَفْضَلِ الْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ حَامِلِ

شکر پیغمبروں کے اور افضل سب مخلوقات کے اٹھانے والے

لِوَاوِءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى وَمَالِكِ اَنْزَمَةِ الشَّرَافِ الْاَسْنٰى شَاهِدِ

جھنڈے بزرگی بڑی کے اور مالک مساروں بزرگی روشن تر کے واقف

اَسْرَارِ الْاَزَلِ وَمُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّابِقِ الْاَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ

بھیدوں ازل کے اور دیکھنے والے نوروں اگلے پہلے کے اور بیان کرنے

لِسَانَ الْقَدَمِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحَلِمِ وَالْحَكِمِ وَمَظْهَرِ

والے زبان ہمیشگی کے اور چشمہ علم اور بردباری اور حکمتوں کے اور جاتے ظہور

سِرِّ الْجُودِ الْجَزِيِّ وَالْكَلْبِيِّ وَأَسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلُويِّ

بھید بخشش مخوڑی اور بہت کے اور پستلی آنکھ ہستی وجود بلند

وَالسِّفَلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكُونَيْنِ وَعَيْنِ حَيَاتِ الدَّارَيْنِ

اور پست کے اور جان جسم دونوں جہان کے اور اصل زندگی دنیا اور آخرت

الْمُتَخَلِّقِ بِأَعْلَى رُتَبِ الْعَبُودِيَّةِ الْمُتَحَقِّقِ بِأَسْرَارِ السُّبُوبِيَّةِ

کے مخوگیر ساتھ برترین رتبہ بندگی کرنے کے ثابت آراستہ ساتھ بھید دل بوبیت کے

صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْأَصْطِفَائِيَّةِ وَالْكَرَامَاتِ الْإِرْتِضَائِيَّةِ

صاحب مقامات برگزیدگی اور کرامات کے پسندیدگی

سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ الْأَوْصَافِ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَ

سرور بزرگوں کے اور جمع کرنے والے اوصاف دوست بڑے کے اور

الْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ وَالْمَخْضُوعِ بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ

دوست رکھے گئے بزرگ خاص کیے گئے ساتھ برتر مرتبوں اور مقاموں کے

وَالْمُوَيَّدِ بِأَوْضِحِ الْبَرَاهِينِ وَالذَّلَالَاتِ الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ

اور مدد کیے گئے ساتھ روشن دلیلوں کے اور رہنماؤں کے مدد کیے گئے ساتھ رعب

وَالْمُعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْأَبَدِيِّ وَالنُّورِ الْفَتْدِيمِ

اور معجزات کے اور جوہر بزرگ دائمی اور نور قدیم

الْمَحْمَدِيِّ السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ فِي الْإِيْجَادِ

محمدی سردمی کے سردار ہمارے محمدؐ پسندیدہ پیدائش کے

وَالْوُجُودِ الْفَائِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَتِ الْمَشَاهِدَةِ

اور ہستی کے ابتدا کرنے واسطے ہر ایک کے دیکھنے والے اور دیکھے گئے اور درگاہ مکانوں

وَالشُّهُودِ نُورِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاهُ وَسِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَسَنَاهُ الَّذِي

روشنی اور ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے اور بھید ہر بھید کے اور روشنی اس کی

شَقِقَتْ مِنْهُ الْأَسْرَارُ وَالْفُلُوقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ السِّرِّ الْبَاطِنِ

وہ ذات کہ کھولے گئے اس سے بھید اور روشن ہوئے اس سے نور بھید باطن کے

وَالنُّورِ الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ

اور نور ظاہر کے سردار پوری ابتدا کرنے والے تمام کرنے والے اول

الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْخَاشِعِ الشَّاهِي الْأَمِيرِ

آخِر پوشیدہ ظاہر پیچھے آنے والے منع کرنے والے حکم کرنے والے

النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَانِتِ الذَّاكِرِ الْمَارِحِ

نصیحت کرنے والے مدد کرنے والے صبر کرنے والے شکر کرنے والے دعا مانگنے والے یاد کرنے والے بٹانے والے

الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ

بزرگ غالب حمد کرنے والے یقین کرنے والے عبادت کرنے والے توکل کرنے والے

الزَّاهِدِ الْقَائِمِ الْقَاعِدِ الرَّاحِ السَّاجِدِ الشَّابِعِ الشَّهِيدِ

زہد رکھنے والے کھڑے ہونے والے نماز میں بیٹھنے والے نماز میں رکوع اور سجدہ کرنے والے تابعدار گواہ

الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ الْبُرْهَانَ الْحُجَّةَ الْمَطَّاعِ الْمُخْتَارِ الْخَاضِعِ

دوست خداستودہ وسیل حجت اطاعت کیے گئے برگزیدہ عجز کرنے والے

الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَقِّ الْمُبِينِ طَاهِرٌ وَيَسْرُفُ

فروتنی کرنے والے نیک مدد چاہنے والے راست روشن طہ اور یسر

الْمُرْمِلِ الْمُدَّثِرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرَامَا الْمُتَّقِينَ

کسبل پوش چادر لپیٹنے والے سردار پیغمبروں کے اور پیشوا پرہیزگاروں کے

وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى

اور ختم کرنے والے نبیوں کے اور دوست پروردگار تمام دنیا کے پیغمبر برگزیدہ

وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الْحَكِيمِ الْعَدَلِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

اور رسول برگزیدہ منصف عادل پاکیزہ خبردار

الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ الْغَفُورِ الشَّكُورِ

دانا بہت دانا غالب بڑی رفاقت والے مہربان بخشنے والے شکر کرنے والے

الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ نُورِكَ الْقَدِيمِ وَصِرَاطِكَ السُّتَقِيمِ

بزرگ کریم نور تیرے قدیم اور راہ تیری جو سیدھی ہے

مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَصَفِيُّكَ وَخَلِيْلُكَ وَحَبِيْبُكَ وَ

محمد بندے تیرے اور رسول تیرے اور برگزیدہ تیرے اور دوست تیرے اور حبیب تیرے

وَلِيْلِكَ وَنَبِيِّكَ وَآمِيْنِكَ وَدَلِيْلِكَ وَنُجْبَتِكَ وَ

اور ولی تیرے اور نبی تیرے اور امانت دار تیرے اور تیرا رہتہ دکھانے والا اور ہر از تیرے اور برگزیدہ تیرے اور

ذَخِيْرَتِكَ وَخَيْرَتِكَ وَرَامَاةِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

ذخیرہ تیرے اور محنت تیرے اور پیشوائی تیرے اور کھینچنے والے نیکی کے اور بھیجے ہوئے

الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ

واسطے رحمت کے پیغمبر نامخوانہ عرب کے رہنے والے قبیلہ قریش سے اولاد ہاشم سے

الْأَبْطَحِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ النَّهَارِيِّ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودِ الْوَالِيِّ

ابطحی رہنے والے مکہ کے اور مدینے کے اور تھام کے گواہ گواہی دینے والے دوست

الْمُقَرَّبِ الْعَبْدِ الْمَسْعُوْدِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الْحَسِيْبِ

نزدیک کیے گئے بندے نیک دوست سفارش کرنے والے صاحب حسب

الرَّفِيْعِ الْمَلِيْحِ الْبَدِيْعِ الْوَاعِظِ الْبَشِيْرِ الْبَشِيْرِ الْعَطُوْفِ

بلند مرتبہ ملاحت والے نادر نصیحت کرنے والے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان

الْحَلِيْمِ الْجَوَادِ الْكَرِيْمِ الطَّيْبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِيْنِ

تھمیل والے سخی بخشش کرنے والے پاک برکت دینے والے صاحب مرتبہ

الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ الْاَمِيْنِ الدَّاعِي الْيَكْبَرِيْكَ بِاَذِيْنِكَ

سچے سچا کیے گئے امانت دار بلانے والے خلقت کے تیری طرف حکم تیرے سے

السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الَّذِي اَدْرَكَ الْحَقَائِقَ بِجَسَدِهَا وَفَانَا

چراغ روشن ایسے کہ جس نے جانا اہل اہل چیزوں کو تمام کمال اور بالا

وَفَاقَ الْخَلَائِقَ بِرُمَّتِهَا وَجَعَلَتْهُ حَبِيْبًا وَنَاجِيْتَهُ قَرِيْبًا

ہوئے مخلوقات پر سارے اور کیا تو نے ان کو دوست اور ہر از کیا تو نے ان کو بھی ایک

وَأَدْنَيْتَهُ قَرِيْبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَالذَّلَالَاتَةَ

نزدیک اور نزدیک ہی تو نے ان کو درآن ایک نگہبان ان کا تھا اور تم کی تو نے اس پر رسالت اور مسما

وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذِيرَةَ وَالنَّبُوَّةَ وَنَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ وَ

اور نحو شیخیری اور ڈرانے اور پیغمبری کو اور مدد کی تو نے ان کے ساتھ درشت کی اور

ظَلَّتْهُ بِالسُّحْبِ وَرَادَّتْ لَهُ الشَّمْسُ وَشَقَقَتْ لَهُ

سایہ دیا تو نے ان کو ابر کا اور پھیرا تو نے واسطے ان کے آفتاب کو اور بھاڑا تو نے واسطے ان کے

القَمَرَ وَأَنْطَقَتْ لَهُ الضَّبُّ وَالظَّبْيُ وَالذَّبَّابُ وَالْجَدَّاعُ

چاند کو اور گویا تو نے واسطے ان کے سوسمار اور ہرن اور بھیڑیے اور شاخ درست اور بازو

وَالْجَمَلُ وَالْجَبَلُ وَالْمَدْرُ وَالشَّجَرُ وَالْحَجَرُ وَأَنْبَعَتْ

اور اونٹ اور پہاڑ اور اینٹ اور درخت اور پتھر کو اور نکالا تو نے

مِنْ أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزَّلَّالَ وَأَنْزَلْتَ مِنَ الْمُزْنِ بَدْعُوْتَهُ

ان کی انگلیوں سے پانی بیٹھیا اور اتارا تو نے ابر سفید سے دُعا ان کی سے

فِي عَامِ الْمَحِلِّ وَالْجُدَيْبِ وَأَبْلِ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ

بیچ سال محظ اور خشکی کے بڑی بوندوں کو باران اور مینہ

فَاعْشَوْشَبَ مِنْهُ الْقَفْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَ

پھر ہری ہوئی اس سے زمین سوکھی اور پتھر ملی اور کڑی زمین اور زمین نرم اور

الرَّمْلُ وَالْحَجَرُ وَالْمَدْرُ وَأَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلًا مِنْ

ریگستان اور پتھر اور اینٹ اور لے گیا تو ان کو ایک رات

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى السَّمَوَاتِ

مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک آسمانوں

الْعُلَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

بلند سدرۃ المنتہیٰ تک اور اس مکان تک کہ گوشہ کمان تک یا اس سے کم تھا

وَأَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَنْتَهُ الْغَايَةَ الْقُصْوَى

اور دکھائی تو نے ان کو نشانی بڑی اور پہنچایا تو نے ان کو نہایت مرتبہ دور تر کو

وَأَكْرَمْتَهُ بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمِرَاقِبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ وَ

اور بزرگی دی تو نے ان کو ساتھ باتیں کرنے کے اور نگہبانی کرنے کے اور رُوبرُو ہونے کے اور

الشَّاهِدَةِ وَالْمُعَايِنَةِ بِالْبَصَرِ وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ

حضور میں جانے کے اور دیکھنے کے بینائی سے اور خاص کیا تو نے ان کو ساتھ وسیلہ

الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ الْفَرَجِ الْأَكْبَرِ فِي

بزرگ سے اور سفارش بڑی دن خوف بڑے کے

الْمَحْشَرِ وَجَمَعَتْ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَ

محشر میں اور جمع کیا تو نے واسطے ان کے جمع کرنے والی باتیں اور جواہر حکمتوں کے اور

جَعَلَتْ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَغَفَرَتْ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

کیا تو نے ان کی امت کو بہترین امتوں کا اور بخشا تو نے واسطے اُنکے جو بظاہر کے خلاف اولیٰ کام کئے

ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي بَلَغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَ

اور جو پیچھے کیے وہ کہ پہنچایا انھوں نے احکام پیغمبری کو اور ادا کی امانت اور

نَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ الْعَمَةَ وَجَلَى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ

نصیحت کی امت کو اور دور کیا غم کو اور روشن کیا تاریکی کفر کو اور کوشش کی

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّىٰ آتَاهُ الْيَقِينَ ۗ اللَّهُمَّ

بیچ راہ اللہ کی اور عبادت کی رہا اپنے کی یہاں تک کہ آیا ان کو یقین اے اللہ!

ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا يُغْبِطُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ

اُٹھا ان کو مقام محمود میں کہ رشک کریں بیچ اس کے پہلے اور پیچھے

اللَّهُمَّ عَظِّمُهُ فِي الدُّنْيَا عِلًّا ذِكْرَهُ وَارْظَاهِرِ دِينَهُ وَ

اے اللہ! بڑائی دی تو نے ان کو دنیا میں ساتھ بلند کرنے ذکر اس کے اور ظاہر کرنے دین اس

إِبْقَاءَ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْزَلُ

کے اور باقی رکھنے شریعت اس کی کے اور بیچ آخرت کے ساتھ شفاعت ان کی کے بیچ امت اس کی کے اور

أَجْرَهُ وَمَتَّوْبَتَهُ وَأَبْدِ فَضْلَهُ لِلْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِيْنَ

دے تو مزدوری اور ثواب ان کو اور ظاہر کر تو زیادتی ان کی پہلوں اور پچھلوں کے لیے

بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَىٰ كَافَّةِ الْمُقَرَّبِينَ

مقام محمود میں اور مقدم کرنے ان کے سے اوپر تمام نزدیکوں

بِالشُّهُورِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ

ظاہر کریں اے اللہ! قبول کر شفاعت ان کی بڑی اور بلند کر مرتبہ ان کا

الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا اتَيْتَ

بہت بلند اور دے تو ان کو مطلب ان کے بیچ آخرت اور دنیا کے جیسے کہ دیا تو نے

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ

ابراہیم اور موسیٰ کو اے اللہ! کر تو ان کو بڑے بزرگ بندوں اپنے سے اور تیرے

شَرَفًا وَكَرَامَةً وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَمِنْ أَعْظَمِهِمْ

ازراہ بزرگی اور کرامت کے اور بلند تر ان کے سے نزدیک اپنے از روئے مرتبہ کے اور بزرگ تر ان کے سے

عِنْدَكَ خَطَرًا وَمِنْ أَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ

نزدیک اپنے از روئے قدر کے اور تو انما تر ان کے سے نزدیک اپنے از روئے شفاعت کے اے اللہ! بزرگ کر دلیل ان کی

وَأَبْلِغْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ مَا مَوْلَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ

اور ظاہر کر دلیل نبوت اس کی اور پہنچا اس کو اس کی از تو تک بیچ اہل خانہ اس کے اور اولاد اس کی کے اے اللہ پیچھے پہنچا

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّتِهِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ عَيْنُهُ وَأَجْزِهِ عَنَّا خَيْرٌ

تو اولاد اس کی سے اور امت اس کی سے وہ چیز کہ روشن ہو اس سے آنکھ اس کی اور بدلہ دے اس کو ہم سے اچھا

مَا أَجْزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَأَجْزِ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا

اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو اس کی امت سے اور بدلہ دے تو سب نبیوں کو اچھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدَاتُهُ

اے اللہ درود اور سلام بھیج اوپر ہمارے سردار محمد کے بے شمار اس کے کہ دیکھیں اس کو

الْأَبْصَارُ وَسَمِعَتْهُ الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ

بینایان اور سنیں اس کو کان اور درود اور سلام بھیج اوپر اس کے بے شمار اس کے

صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

کے کہ درود بھیجے اس پر اور درود اور سلام بھیج اوپر اس کے بے شمار اس کے کہ نہ درود بھیجے اوپر اس کے

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ

اور درود اور سلام بھیج اوپر اس کے جیسا کہ چاہتا ہے تو اور خوش ہو تو یہ کہ درود اور سلام بھیجا جائے اس پر

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ

اور درود اور سلام بھیج اور پراس کے جیسا کہ حکم کیا تو نے کہ درود بھیجیں مہم اور پراس کے اور درود

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سلام بھیج اس پر جیسا کہ سزاوار ہے یہ کہ درود بھیجا جاتے اس پر اے اللہ! درود اور

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَفْضَالِهِ

سلام بھیج اس پر اور اس کی آل پر بے شمار نعمتوں خدا تعالیٰ کی اور افزائشیں اس کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ

اے اللہ! درود اور سلام بھیج اوپر سردار ہمارے محمدؐ اور آل اس کی اور

أَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ وَأَنْزُوجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

اصحابوں اور اولاد اس کی اور اولاد اولاد اس کی کے اور بیہوں اس کی کے اور اولاد اس کی کے

وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ وَأَطْهَارِهِ وَأَصْهَارِهِ

اور گھر کے لوگوں اس کے کے اور اولاد ان کی کے اور خوشیوں ان کے کے اور طہارت ان کی کے اور حسروں ان کے کے

وَأَخْتَانِهِ وَأَجْبَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ

اور دامادوں ان کے کے اور دوستوں ان کے کے اور پیروں ان کے کے اور گروہ ان کے کے اور مددگاروں ان کے کے

خَزَنَةِ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِنِ أَوْسَارِهِ كُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَ

جو نگہبان ہیں بھیدوں ان کے کے اور کانہیں نوروں ان کے گنج اصلوں کے اور

هُدَاةِ الْخَلَائِقِ نَجُومِ الْإِهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَىٰ بِهِمْ

رہنما مخلوقات کے ستارے رہنماؤں کے واسطے ان کے کہ پیروی کریں

وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضِ عَرْشِ

اور سلام بھیج سلام بھیجا بہت ہمیشہ ہمیشہ اور خوش کر

كُلِّ الصَّحَابَةِ رَضِيٍّ سَرْمَدًا عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِثَانَةَ

سب یاروں اس کے سے خوشی ہمیشہ بے شمار خلق اپنی کے اور بے مقدار گرائی

عَرْشِكَ وَرِثَانَةَ نَفْسِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا

عرش اپنے کے اور خوشی ذات اپنے کے اور سیاہی کلموں اپنے کے جب کہ

ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَن ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ صَلَاةً

یاد کریں تجھ کو ذکر کرنے والے اور جب کہ بھولیں تیری یاد سے غافل وہ درود کہ

تَكُونَ لَكَ بِرَضَىٍّ وَلِحَقِيقَةٍ آدَاءٌ وَلِنَا صَلَاحًا وَإِتِّمَامًا

ہو تیرے لیے خوشی اور واسطے حق اس کے ادا اور ہمارے لیے بہتری اور دے تو

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ

اس کو مقام وسیلے کا اور فضیلت کا اور مرتبہ بزرگ اور بلند

وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللِّوَاءَ الْمَعْقُودَ وَالْحَوْضَ

اور اُٹھا تو اس کو مقام محمود میں اور نشان بستہ اور حوض کہ

الْمَوْسُودَ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

دارد ہو گئے اس پر اور رحمت بھیج اے اللہ اوپر سب بھائیوں اس کے نبیوں

وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَلَائِكَتِكَ

اور پیغمبروں اور ولیوں اور نیکوں اور اپنے فرشتوں

الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

مقربین پر اور اوپر سردار ہمارے شیخ محمد بن عبد

عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَكِينِ الْأَمِينِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

عبدالقادر کے جو صاحب مرتبہ کے امین ہیں رحمت میں اللہ کی ان سب پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! رحمت بھیج اوپر سردار ہمارے محمد پر اور آل سردار ہمارے محمد کے

السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورًا وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ

کہ پہلے سب خلقت کے ہے نور ان کا اور رحمت واسطے جہانوں کے ہے ظہور ان کا بے شمار

مَا مَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ

گزرے ہوئے خلق تیری کے اور جو باقی رہا اور جو کہ نیک بخت تھا ان سے اور جو

شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَفْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً

بدبخت ہوتا ایسی رحمت کہ گھیر لے گنتی کو اور احاطہ کرے نہایت کو وہ درود کہ

لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ

نہ حد ہو اُس کی اور نہ نہایت اور نہ اندازہ اس کا اور نہ تہائی اس کے

صَلَوَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ

دُرود تیرا وہ درود کہ بھیجا تو نے اُوپر اس کے درود عرض کیا گیا اوپر اس کے

مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بَدَأَ بِهَا

قبول کیا گیا نزدیک اس کے محبوب اس کو درود ہمیشہ بہنے والا ساتھ ہمیشگی تیرے

وَبَاقِيَةٌ بِبِقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ صَلَاةٌ

کے اور باقی ساتھ بقا تیری کے نہ انتہا اس کی ہو نزدیک علم تیرے کے درود

تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عِنَّا صَلَاةٌ تَسْمَعُ

خوش کرے تجھ کو اور خوش کرے تمہیں اور خوش کرے تو اس کو اور خوش ہو تو بسبب اس کے تم سے ایسا درود کہ

الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ صَلَاةٌ تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَاءَنَا وَتُرِي

بھولے زمین اور آسمان کو وہ درود کہ قبول کرے تو بسبب اس کے دعا ہماری اور پاکی کرے

بِهَانَفُسِنَا وَتُجِيبُ بِهَا قُلُوبَنَا وَتُحِلُّ بِهَا الْعُقَدَ

تو بسبب اس کے ہماری جانیں اور زندہ کرے دل ہمارے اور کھولے تو بسبب اس کے گریں

وَتُفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ وَيَجْرِي بِهَا لُطْفُكَ فِي

اور دُور کرے تو اس سے سختیاں اور جاری ہو بسبب اس کے ہرمانی تیری میرے

أَمْرِي وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَبَارِكْ لَنَا عَلَى الدَّوَامِ وَ

کام میں اور کاموں میں سب مسلمانوں کے اور برکت دے تو ہمیں اوپر ہمیشگی کے اور

عَافِنَا وَاهْدِنَا وَامْدُدْنَا وَاجْعَلْنَا أَمِينِينَ وَيَسِّرْ

بچا تو ہمیں اور راہ بتا ہم کو اور مدد دے ہم کو اور کر ہم کو نڈر اور آسان کر

لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ

کام ہمارے ساتھ آرام کے واسطے دلوں ہمارے کے اور بدنوں ہمارے کے اور سلامتی

وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا وَتَوَفَّنَا عَلَى

اور تندرستی بیچ دین ہمارے کے اور دنیا ہماری کے اور آخرت ہماری کے اور مار تو ہمیں اوپر

الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

قرآن اور طریقت پر پیغمبر کے اور اکٹھا کر ہمیں ساتھ حضرت کے بہشت میں بغیر

عَذَابِ أَبْيَيْسٍ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا وَلَا تَمَكُرُ بِنَا وَ

عذاب سخت کے اور درآن حالیکہ تو خوش ہو ہم سے اور نہ آزما ہمیں اور

اخْتِمُ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٌ بِلَا مَحْنَةٍ أَجْمَعِينَ

خاتمہ کر ہمارا اپنی طرف ساتھ بہتری اور عافیت کے بغیر محنت کے سب کا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۗ وَسَلَامٌ عَلٰی

پاکی ہے پروردگار کو پروردگار بزرگی کا اس سے جو بیان کرتے ہیں شرک اور سلامتی اوپر

الْمُرْسَلِينَ ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ بِرَحْمَتِكَ

پیغمبروں کے اور سب تعریف اللہ کو جو پالنے والا عالموں کا ہے تیری رحمت سے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۗ

اے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے !

دُرُودِ اَكْبَرِ الْعَظْمِ لِسَيِّدِنَا غَوْثِ الْعَظْمِ رَضِي

دُرُودِ اَكْبَرِ الْعَظْمِ لِسَيِّدِنَا غَوْثِ الْعَظْمِ رَضِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

تعریف کرتے ہیں تم اللہ کی اور دُرُودِ بَیْحِجَہِ میں اوپر رسول اس کے بزرگ کے اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِجَہِ

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقْبَلُ بِهَا دُعَاؤُنَا

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے محمدؐ ایسا دُرُودِ کہ قبول کرے تو ساتھ اس کے دعا ہمارے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْمَعُ

یا اللہ! دُرُودِ بَیْحِجَہِ اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ صاحب کے ایسا دُرُودِ کہ سنے تو

بِهَا اسْتِغَاثَتْنَا وَنِدَاءُنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ساتھ اس کے فریاد اور پکار ہمارے اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِجَہِ اوپر سردار ہمارے

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُسَلِّمُ بِهَا اِيْمَانَنَا اَللّٰهُمَّ

اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ صاحب کے ایسا دُرُودِ کہ نگاہ رکھے تو بسبب اس کے ایمان ہمارے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقْوِيْ بِهَا

دُرُودِ بَیْحِجَہِ اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ کے ایسا دُرُودِ کہ قوی کرے تو بسبب اس کے

اِيْقَانَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

یقین ہمارا اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِجَہِ اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ کے ایسا دُرُودِ کہ

تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوْبَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

بخش دے تو بسبب اس کے گناہ ہمارے اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِجَہِ اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَسْتُرُ بِهَا عِيُوبَنَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

حضرت محمدؐ کے ایسا درود کہ تو سبب اس کے ٹھکانے ہمارے عیبوں کے لئے اللہ! درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ

سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ پر ایسا درود کہ نگاہ رکھے تو سبب اس کے ہم کو

اِكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کمانے گناہوں سے لئے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوَفِّقُنَا بِهَا لِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ ۝ اللَّهُمَّ

حضرت محمدؐ کے ایسا درود کہ تو ہمیں دے تو سبب اس کے نیک کاموں کی لئے اللہ!

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَفْلِحُ بِهَا عَمَّا

درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ کے ایسا درود کہ خلاصی دے تو سبب اس کے

يُرِدُّنَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

چیز سے کہ ہلاک کرے ہم کو لئے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ کے ایسا درود

تَكْسِبُ بِهَا مَا يُنْجِينَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کہ نصیب کرے تو ہم کو نجات ہماری لئے اللہ! درود بھیج اوپر ہمارے سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجَنِّبُ بِهَا عَنَّا الشَّرَّ كُلَّهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

حضرت محمدؐ پر ایسا درود کہ ہٹائے تو سبب اس کے ہم سے تمام شر کو لئے اللہ! درود بھیج

عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا الْخَيْرَ

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ کے ایسا درود کہ نصیب کرے تو ہم کو سبب اس کے تمام

كُلَّهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

بھلائیاں لئے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ کے ایسا درود کہ

تُحَسِّنُ بِهَا أَخْلَاقَنَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اچھے کرے تو اس سے اخلاق ہمارے لئے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُصْلِحُ بِهَا أَسْوَأَنَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

حضرت محمدؐ کے ایسا درود کہ نیک کرے تو سبب اس کے ہمارے حالوں کو لئے اللہ! درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعْصِمُنَا بِهَا عَنِ

سر دار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود بھیج کہ بچائے تو ہم کو بسبب اس کے

الْبَعْصِيَّةِ وَالْغَوَايَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

گناہوں سے اور گمراہی سے اے اللہ! درود بھیج اوپر سر دار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا اتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ۝

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ نصیب کیے تو ہم کو بسبب اس کے اتباع سنت اور جماعت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَبْعِدُنَا

اے اللہ! درود بھیج اوپر سر دار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ دور کرے

بِهَآ مِنْ اقْتِرَانِ الْاَفَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

ہم کو بسبب اس کے نزدیک ہونے آفتوں سے اے اللہ! درود بھیج اوپر سر دار ہمارے اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكَلِّفُنَا بِهَا عَنِ الرَّكَّاتِ وَ

نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بچائے تو ہم کو بسبب اس کے لغزشوں سے اور

الْهَفَوَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

خطاؤں سے اے اللہ! درود بھیج اوپر سر دار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوَةٌ تُحْصِلُ بِهَا اِمَالَنَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ایسا درود کہ پیش کرے تو بسبب اس کے ہماری آرزوئیں اے اللہ! درود بھیج اوپر سر دار ہمارے

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُخَالِصُ بِهَا لَكَ اَعْمَالَنَا ۝ اللَّهُمَّ

اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ خالص کرے بسبب اس کے ہمارے عملوں کو اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْعَلُ بِهَا

درود بھیج اوپر سر دار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ کرے تو بسبب اس کے

الثَّقْوَى نَرَادَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

پر ہمیزگاری کو ہمارا زاوراہ اے اللہ! درود بھیج اوپر سر دار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوَةٌ تَزِيدُ بِهَا فِي دِينِكَ اِحْتِهَادَنَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

ایسا درود کہ زیادہ کرے تو بسبب اس کے دین میں ہماری کوشش کو اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ نصیب کرے تو بسبب اس کے

الْإِسْتِقَامَةَ فِي طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

استقامت کو اپنی طاعت میں اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمُنِّحُنَا بِهَا الْإِنْسَانَ بِعِبَادَتِكَ

نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ نصیب کرے تو ہم کو بسبب اس کے اگت ساتھ عبادت تیری

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْسِنُ

اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ اچھا کرے تو

بِهَائِنَتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

بسبب اس کے ہماری نیت کو اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوةٌ تَمُنِّحُنَا بِهَا أَمْنِيَّتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ایسا درود کہ پوری کرے تو بسبب اس کے ہماری آرزو میں اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَجِيرُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ الْإِنْسَانِ وَ

اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بچائے تو ہم کو بسبب اس کے شرارت انسانوں اور

الْجَانِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

جنوں کی سے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود

تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ پناہ دے تو ہم کو بسبب اس کے شرارت نفس اور شیطان کی سے اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ حفاظت کرے تو ہماری بسبب اس کے

الدَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

ذلت اور غماری سے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب

صَلَوةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ اللَّهُمَّ

کے ایسا درود کہ پناہ دے تو ہم کو بسبب اس کے سختی دل کی اور غفلت سے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا

دُرود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرود کہ نگاہ رکھتے تو ہم کو بسبب اس

عَمَّا يَشْفَعُنَا عِنْدَكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کے اس چیز سے کہ مشغول کرے ہم کو تجھ سے اے اللہ! دُرود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَوْفِّقُنَا بِهَا لِمَا تَقَرَّبْنَا مِنْكَ ۞ اللَّهُمَّ

محمد صاحب کے ایسا دُرود کہ توفیق دے ہم کو بسبب اس کے واسطے اس چیز کے کہ قریب کرے ہم کو تیری طرف اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا

دُرود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرود کہ کرے تو بسبب اس کے

سَعَيْنَا مَشْكُورًا أَوْ عَمَلْنَا مَقْبُولًا ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کوشش ہماری کو مشکور اور عمل ہمارے کو مستبول اے اللہ! دُرود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْتَحِنَّا بِهَا عِزًّا وَ

سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرود کہ دے ہم کو بسبب اس کے عزت اور

قَبُولًا ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

قبولیت اے اللہ! دُرود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرود

تَقْطَعُ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ إِحْتِیاجَنَا ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ قطع کرے تو بسبب اس کے اس شخص سے کہ سوا تیرے ہے احتیاج ہماری جس کے نزدیک اے اللہ! دُرود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَنْمُو بِهَا بِنِعْمَتِكَ

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرود کہ ہمیشہ کرے تو بسبب اس کے اس نعمت میں اضافہ

إِبْتِهَاجَنَا ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

ہم پر اے اللہ! دُرود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوةً تَكُونُ بِهَا فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا وَكَيْلًا ۞ اللَّهُمَّ

ایسا دُرود کہ ہو دے تو بسبب اس کے ہمارے سب کاموں میں ہمارا کارساز اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ بِهَا

دُرود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرود کہ ہو دے بسبب اس کے

لِقَضَاءِ حَوَائِجِنَا كِفِيلًا ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

واسطے پورا کرنے ہماری حاجتوں کے ضامن اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعِيْدُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَايَا ۞ اَللّٰهُمَّ

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ پناہ دے تو سبب اس کے تمام بلاؤں سے ہم کو اے اللہ!

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا

درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ کرے تو باعث اس کے

بِحَزِيْلٍ الْعَطَايَا ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

ہم پر بڑی محبت سے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب

صَلَاةً تَزُرُّقُنَا بِهَا عَيْشَ الرُّغْدَاءِ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

کے ایسا درود کہ نصیب کرے تو ہم کو سبب اس کے رزق تازہ اے اللہ! درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا عَيْشَ

سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ نصیب کرے تو ہم کو سبب اس کے روزی

السُّعْدَاءِ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

نیک نحتوں کی اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَاةً تُسَهِّلُ بِهَا عَلَيْنَا جَمِيعَ الْأُمُورِ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ایسا درود کہ آسان کرے تو سبب اس کے ہم پر تمام کام اے اللہ! درود بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدِيمُ بِهَا بَرْدَ

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ ہمیشہ رکھے تو سبب اس کے ٹھنڈک

الْعَيْشِ وَالسَّرْوْرِ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

عیش اور خوشی کی اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُبَارِكُ بِهَا فِيهَا أَعْطَيْتَنَا ۞ اَللّٰهُمَّ

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ برکت کرے تو سبب اس کے اس چیز میں کہ دی تو نے ہم کو اے اللہ!

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا

درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ نصیب کرے تو سبب اس کے

الرِّضَاءِ بِهَا اتَّيْتَنَا ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

رضاء ساتھ اس چیز کے کہ دیا تو نے ہم کو اے اللہ! درود بھیج اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُزَكِّي بِهَا عَنِ الْهَوَى نَفُوسَنَا ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ پاک کرے تو بسبب اس کے خواہش نفس سے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُطَهِّرُ بِهَا

درود بھیج اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ پاک کرے تو بسبب اس کے

عَمَّنْ سِوَاكَ قُلُوبَنَا ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اس چیز سے کہ سوا تیرے ہیں ہمارے دلوں کو اے اللہ! درود بھیج اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُصَغِّرُ بِهَا الدُّنْيَا فِي عِيُونِنَا ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ حقیر دکھائے تو بسبب اس کے دنیا کو ہماری آنکھوں میں اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعْظِمُ بِهَا جَلَالَكَ

درود بھیج اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بڑی ہو جائے بسبب اس کے تیری

فِي قُلُوبِنَا ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

کہ راضی کرے تو ہم کو اس سے ساتھ قضا اپنی کے اے اللہ! درود بھیج اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

تُرْضِينَا بِهَا بِقَضَائِكَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

بزرگی ہمارے دلوں میں اے اللہ! درود بھیج اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُوزِنُ عَنَّا بِهَا شُكْرَ نِعْمَاتِكَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بسبب اس کے شکر نعمتوں تیری کا اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُصَحِّحُ بِهَا تَوَكُّلَنَا

اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ صحیح ہو جائے بسبب اس کے توکل ہمارا

وَاعْتِمَادَنَا عَلَيْكَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اور اعتبار ہمارا تجھ پر اے اللہ! درود بھیج اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب

صَلَوةٌ تُحَقِّقُ بِهَا وَتُوقِنَا وَالتَّجَاءَ نَا إِلَيْكَ ط اللَّهُمَّ

کے ایسا درود کہ ثابت کرے تو اس سے ہمارے عہد اور ہماری التجا کو تیری طرف اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ

وَرُوْد بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُوْد کہ راضی کرے تجھ کو اور راضی ہو تو کیا

وَتُرْضِي بِهَا عَنَّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

سے اور خوش ہو تو سبب اس کے اے اللہ! وَرُوْد بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوةً تُجْبِرُ بِهَا مَا فَاتَ مِنَّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

ایسا دُرُوْد کہ بچائے تو سبب اس کے اس سے کہ فوت ہوا ہم سے اے اللہ! وَرُوْد بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيْذُنَا بِهَا مِنَ الْعُجْبِ وَالرِّيَاةِ

اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُوْد کہ پناہ دے تو ہم کو سبب اس کے تکبر اور ریاہ سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا

اے اللہ! وَرُوْد بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُوْد کہ نگاہ رکھے تو ہم کو

بِهَا مِنَ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِيَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ

سبب اس کے حسد اور تکبر سے اے اللہ! وَرُوْد بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُكْسِرُ بِهَا شَهْوَاتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُوْد کہ قطع کر دے تو سبب اس کے ہماری خواہشیں اے اللہ! وَرُوْد بَیْحِ

عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجْزِعُ بِهَا عَادَاتِنَا

اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُوْد کہ عادتوں کے ہماری خصلتیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَصْرِفُ

اے اللہ! وَرُوْد بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُوْد کہ پھیر دے تو سبب

بِهَا عَنِ الدُّنْيَا وَلِذٰلِكَ اَتٰهَا قُلُوْبُنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

اس کے دُنیا اور اس کی لذتوں سے ہمارے دل اے اللہ! وَرُوْد بَیْحِ اُوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْمَعُ بِهَا فِي اِسْتِيَاقِ

سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُوْد کہ جمع ہو جاوے سبب اس کے تیرے شوق

اِلَيْكَ هُمُومَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

میں ہمارے قصد اے اللہ! وَرُوْد بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب

صَلَاةٌ تُوْحَشِنَابِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

کے ایسا درود کہ ڈریں ہم بسبب اس کے اس شخص سے کہ ہوا تیرے ہے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تُوْنِسُنَابِهَا بِقُرْبٍ وَّلَا يَكُ ط

اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ آنحضرت پکڑیں ہم ساتھ اس کے ساتھ قرب دوستی تیری کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقْرُبُ بِهَا

اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ کھنڈی ہو میں

فِي مُنَاجَاةِكَ عِيُوْنَنَا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

بسبب اس کے تیری تعریف میں آنکھیں ہماری اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحْسِنُ بِهَا بِكَ ظُنُوْنَنَا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بچھے ہو جاویں بسبب اس کے تیرے گمان اے اللہ! درود بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَشْرَحُ بِهَا

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ کھل جاویں بسبب اس کے

بِعُرْفَتِكَ صِدُّوْرَنَا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ

ساتھ معرفت تیری کے سینے ہمارے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدِيمُ بِهَا فِي ذِكْرِكَ وَ

نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ ہمیشہ کرے تو بسبب اس کے تیرے ذکر اور فکر

فِكْرِكَ سُرُوْرَنَا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

میں خوشی ہماری کو اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا عَن قُلُوْبِنَا الْحُجُبَ وَ

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ اٹھا دیوے تو بسبب اس کے ہمارے دلوں سے حجاب اور

الْاَسْتَاْرَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

پر دوں کو اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا شُهُوْدَكَ فِيْ جَمِيْعِ الْاَثَاْرِ ۝ اَللّٰهُمَّ

ایسا درود کہ کریں ہم بسبب اس کے حاضر ہونے تیرے کو تمام آثار میں اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَقْطَعُ بِهَا

دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُود کہ قطع کرے تو سبب اس کے

حَدِيثَ نَفْسِنَا بِاَعْلَامِكَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بات نفسوں ہمارے کی ساتھ نشانوں اپنے کے اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُبَدِّلُ بِهَا هَوَا جَسَدِ قُلُوبِنَا

اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُود کہ بدل دے تو سبب اس کے خواہش دلوں ہمارے کی

يَا لِهَامِكَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ الہام اپنے کے اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوَةٌ تَفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا جَذَابَاتِكَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

ایسا دُرُود کہ افاضہ فرمائے تو ساتھ اس کے ہم پر جذبہ اپنا اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَشْمِلُنَا بِهَا

اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُود کہ شامل کرے تو ہمیں اس کے سبب

بِنَفْحَاتِكَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اپنی رحمت و رضائیں اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوَةٌ تَحِلُّنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّائِرِينَ إِلَيْكَ ط اللَّهُمَّ

ایسا دُرُود کہ داخل کرے تو سبب اس کے ہیں آپ کی طرف چلنے والوں کے منازل میں اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا

دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُود کہ بلند کرے تو سبب اس کے

مَنْزِلَتَنَا وَمَكَانَتَنَا لَدَيْكَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارا درجہ اور ہمارا مکان اپنے پاس اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْحَقُ بِهَا فِي رَأْسِ اَدَتِكَ اِمَالَنَا

اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُود کہ گم کرے تو اپنے ارادے میں سبب اس کے خواہشیں ہماری

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْحَقُ

اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ اُوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا دُرُود کہ سبب اس کے

بِهَارِ فِي أَعْمَالِكَ أَفْعَالِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اس کے تیرے کاموں میں اپنے کاموں میں بیٹھا جاؤں اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَفْنِي بِهَارِ فِي صِفَاتِكَ صِفَاتِنَا اللَّهُمَّ

محمد صاحب کے ایسا درود کہ فنا کرے تو سبب اس کے اپنی صفتوں میں ہماری صفات کو اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْحُو بِهَا

درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ محو کرے تو سبب اس کے

فِي ذَاتِكَ ذَوَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اپنی ذات میں ہماری ذات کو اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْقِقُ بِهَا إِلَيْكَ لِقَاءَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد صاحب کے ایسا درود کہ ثابت کرے تو سبب اس کے اپنی طرف سے ہمارے ملنے کو اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدِيمُ بِهَا بَتَوَاتُرٍ

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ ہمیشہ کرے تو سبب اس کے سایہ پائے درپے

أَنْوَارِكَ صَفَاءَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

انوار اپنے کے ہماری صفائی کو اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوَةٌ تَسْلُكُنَا بِهَا مَسْلَكَ أَوْلِيَاءِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ایسا درود کہ چلا کرے تو سبب اس کے راستے دوستوں اپنے کے اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْوِينَا بِهَا مِنْ

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ پلا کرے تو ہم کو سبب اس کے

شَرَابٍ أَصْفِيَاءِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

شراب برگزیدوں کا اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوصلُنَا بِهَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ مل جاویں ہم سبب اس کے تیری طرف اے اللہ! درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدِيمُ بِهَا حُضُورَنَا

سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ ہمیشہ ہو سبب اس کے ہمارا حاضر ہونا طرف تیری

إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

طرف تیری اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود

تَهْوِينُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَرَائِطِ اللَّهُمَّ

کہ استان کرے تو بسبب اس کے ہم پر سختی موت کی اور تنگی اس کی اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجِيرُنَا بِهَا

درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بچاؤے تو ہم کو بسبب اس کے

مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَكَرْبَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

خوف قبر سے اور اس کی سختی سے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ بِهَا قُبُورَنَا بِأَنْوَارِ الرَّحْمَةِ

اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بھر جاوے بسبب اس کے ہماری قبریں انوار رحمت سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ

اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ کرے تو بسبب

بِهَا قُبُورَنَا رَوْضَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اس کے ہماری قبروں کو باغ جنت کے باغوں سے اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ اکٹھا کرے تو ہم کو بسبب اس کے جنت

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

نبیوں کے اور صدیقوں کے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَبْعَثُنَا بِهَا مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ

نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ اٹھاوے تو ہم کو بسبب اس کے مع شہیدوں اور

الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

صالحین کے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا قُرْبَهُ وَشِفَاعَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

ایسا درود کہ نصیب کرے تو ہم کو بسبب اس کے قرب اس کا اور شفاعت اس کی اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَقِيضُ بِهَا عَلَيْنَا

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ برسائے تو بسبب اس کے ہم پر

بَرَكَاتِهِ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اپنی برکتیں اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ

تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ

نگاہ رکھتے تو بسبب اس کے ہر بُرائی سے دن قیامت کے اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَشْمَلُنَا يَوْمَ اجْزَاءِ

اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ کھیر یوں ہم کو قیامت کے دن

بِالرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةِ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

رحمت اور بزرگی سے اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُثَقِّلُ بِهَا مِيزَانَنَا ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محمد صاحب کے ایسا درود کہ بھاری کرے تو بسبب اس کے میزان ہماری کو اے اللہ! درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُثَبِّتُ بِهَا عَلَى الصِّرَاطِ

سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ ثابت رکھے تو بسبب اس کے پل صراط پر

أَقْدَامَنَا ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے قدموں کو اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے

صَلَوَةٌ تَدْخِلُنَا بِهَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ بِأَحْسَابِ ۞

ایسا درود کہ داخل کرے تو بسبب اس کے ہم کو بہشت میں بغیر حساب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَبْسِيحُ

اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بجا کرے تو

لَنَا بِهَا النَّظْرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ مَعَ الْأَحْبَابِ ۞

ہمارے لیے بسبب اس کے دیکھنا طرف ذات تیری بزرگ کے ساتھ دوستوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَنْحَلُّنَا

اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمد صاحب کے ایسا درود کہ بسبب اس کے

بِهَاحِبِّ إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ

محبت اس کی آل اور اصحابوں سب کی لے اللہ! ہم وسیلہ پکڑتے ہیں

إِلَيْكَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَشَفِيعِ الْمُدْنِيِّينَ نَبِيِّ

تیری طرف ساتھ سردار رسولوں کے اور شفیع تمنا ہنگاروں کے جو نبی

الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ وَ

رحمت کے ہیں اور شفاعت کرنے والے امت کے ہیں لے اللہ! بظہیل اس کے جو تیرے پاس ہے اور

بِقُدْرَتِكَ لَدَيْكَ نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَنَزُولَ

بظہیل قدر اس کے جو تیرے پاس ہے ہم مانگتے ہیں مراد کو وقت فیصلہ کے اور اترنے

الشُّهُدَاءِ وَعَيْشِ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَ

شہیدوں کے اور زندگی نیکوں کے اور مدد کو اوپر دشمنوں کے اور

مُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْنُ عِبَادُكَ الضُّعَفَاءُ لَا نَعْبُدُ

رفاقت نبیوں کے اور ہم تیرے بندے ضعیف ہیں نہیں عبادت کرتے

سِوَاكَ وَلَا نَطْلُبُ إِذَا مَسَّنَا الضُّدُّ إِلَّا إِلَيْكَ فَاِمْنٌ

سوا تیرے اور نہیں مانگتے ہم جب چھوٹے ہمیں تکلیف مگر تجھ سے پس امن دے

رَوْعَاتِنَا وَأَجِبْ دَعْوَاتِنَا وَاقْضِ حَاجَاتِنَا فَاعْفُزْ نُؤْبَأُ

ہماری گھبراہٹ کو اور قبول کر ہماری دعائیں اور پوری کر ہماری حاجتیں اور بخش ہمارے گناہ

وَاسْتُرْ عِيُوبَنَا يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا حَلِيمُ وَارْحَمْنَا

اور ڈھانک ہمارے عیب اے رحم والے! اے بزرگ! اے بردبار! اور رحم کر ہم پر

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَا إِجَابَةَ جَدِيرَهُ نَعْمٌ

تحقیق تو ہر چیز پر قادر ہے اور ساتھ قبول کرنے کے لائق ہے بہتر ہے

الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيمُ يَا

دوست اور بہتر ہے مددگار اے بلند! اے عظیم! اے جاننے والے! اے

حَكِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّا عَجَبُوكَ وَمِنْ جُنُودِكَ

حکمت والے! اے اللہ! ہم عاجز تیرے بندے ہیں اور تیرے لشکروں سے ایک شکر ہیں

مُتَعَلِّقُونَ بِجَنَابِ نَبِيِّكَ مُتَشَفِّعُونَ إِلَيْكَ بِجَبِيَّتِكَ

تعلق رکھتے ہیں نبیؐ جناب نبیؐ کے شفیع بناتے ہیں تیری طرف تیرے جیبت کو

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى

اے رب جہانوں کے! اور اے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے اور درود

اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ

اللہ کا اُدب سردار ہمارے اور نبی ہمارے حضرت محمدؐ صاحب کے جو خاتم النبیین ہیں اور

إِمَامِ الْمُرْسَلِينَ وَأَرْضَ عَنْ إِلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ط

پیشوا رسولوں کے اور راضی ہو تو ان کی آل اور اصحابوں سب سے

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ط وَسَلَامٌ

پاک ہے رب تیرا صاحب عزت کا اس چیز سے کہ وصف کرتے ہیں اور سلام ہو

عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اُدب رسولوں کے اور تمام تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا۔

اسنادِ قصیدہ غوثیہ

یہ قصیدہ مبارک قطبِ بانی غوثِ صدیقی حضرت شیخ عبدالت اور جیلانی قدس سرہ کی طرف منسوب ہے۔ عوام اسے قصیدہ غوثیہ اور خواص قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں۔ آنجناب نے حالتِ جذبِ استغراق میں اسے منظوم فرمایا ہے۔ خواص اس کے بہت ہیں۔ منجملہ ان کے یہ ہیں۔

(۱) جو شخص گیارہ مرتبہ ہر روز اس کو پڑھنے پر مداومت کرے گا خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے گا اور خلق کے ہاں محبوب۔ (۲) جس نے اس کو درود بنا لیا تو تین ماہ اس کی حد تک بڑھ جائے گی کہ جو چاہے گا یا سنے گا کبھی نہیں بھولے گا۔ (۳) اس کے پڑھنے والے کو عربیت میں کمال درجہ کا فہم پیدا ہو جائے گا اگرچہ بالکل نا آشنا ہو۔ (۴) جو کوئی اس کو حاجت کے واسطے چالیس روز تک پڑھے گا ابھی چالیس روز پورے نہ ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ (۵) جس کسی نے اس کو اپنے پاس لکھا اور ہر روز تین دفعہ پڑھا یا کسی سے سنا اور ہر صبح حسن اعتقاد سے دیکھا، ان شاء اللہ خواب میں حضرت کی زیارت اور دیگر شرف سے مشرف ہوگا اور امرا و سلاطین کے نزدیک معتز اور محترم ہو جائے گا۔ (۶) غرضیکہ بکتیں اس کی بہت ہیں جس کسی نے جس مراد کے واسطے حسن اعتقاد سے اس کو پڑھا ضرور مراد اس کی خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جائے گی۔ اور جب کبھی شروع کرے پہلے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور حضرت کے رُوح پاک کو ثواب بھیجے۔ بعدہ تین مرتبہ درود شریف مندرجہ ذیل پڑھ کر شروع کرے:-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ

وَالْكَرَمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

قصیدہ غوثیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَقَانِي الْحُبُّ كَأَسَاتِ الْوَصَالِ

عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پہلاتے

فَقُلْتُ لِحُكْمَرَتِي نَحْوِي تَعَالِ

پس میں نے اپنی شراب سے کہا کہ میری طرف لوٹ

سَعَتٌ وَمَشَتْ لِنَحْوِي فِي كُؤُسِ

پیالوں میں (بھری ہوئی) وہ شراب میری طرف دوڑی

فَهِي مَتُّ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمُؤَالِي

پس میں اپنے احباب کے درمیان نشہ شراب سے مست ہو گیا

فَقُلْتُ لِسَاءِ أَيْرَاقِطَابِ لَمُّؤَا

میں نے تم اقطاب سے کہا کہ آپ بھی عزم کرو

يَحَايِي وَأَدْخُلُوا أَلْفًا أَنْتُمْ رِجَالِي

اور میرے رنگ میں رنگے جاؤ کیونکہ آپ بھی میرے رفقاء ہیں

وَهُمْ مَمُّؤَا وَأَشْرَبُوا أَنْتُمْ مَجْنُونِي

نوح سیر ہو کر پیو کہ تم میرے شکاری ہو

فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَأْفِي مَلَالِي

کیونکہ ساقی قوم نے میرے لیے لبالب جام بھر رکھا ہے

شَرِبْتُمْ فُضْلَتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي

میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بیچی کھچی مشراب پی لی

وَلَا تَلْتُمْ عَلَوِيَّ وَارْتَصَالِي

لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پاسکے

مَهْتَامُكُمْ الْعُلَى جَمْعًا قَلِيكُنْ

اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے لیکن (پھر بھی)

مَهْتَامِي فَتَقُ قَكُمْ مَا زَالَ عَالِي

میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا

أَنَا فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ وَحُدْرِي

میں بارگاہِ الہی میں یکستا اور یگانہ ہوں

يُصَكِّرْفَنِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ

اللہ تعالیٰ مجھے پھیرتا ہے اور خداوند تعالیٰ میرے لیے کافی ہے

أَنَا الْبَارِزِيُّ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ

جس طرح بارز اشہب تمام پرندوں پر غالب ہے اسی طرح میں تمام مشائخ پر غالب ہوں

وَمَنْ ذَا فِي الرَّجَالِ اعْطَى مِثَالِي

باتو، مردانِ خدا میں سے کون ہے جس کو میرے جیسا ترسہ عطا کیا گیا ہے؟

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا

میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا

وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي

اور میں نے خداوند تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پار لیا

كَسَانِي خَلْعَةَ بَطْرَازٍ عَزِيزٍ

اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت پہنایا، جس پر عزت کے بیل بٹے تھے

وَتَوَجَّحَنِي بِتِجَارِ الْكَمَالِ

اور تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے

وَ أَطْلَعَنِي عَلَى سِرِّ تَدِيمِ

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز تدمیر پر مطلع کیا

وَوَلَدَانِي فِي اعْطَاكَ انِّي سُؤَالِي

اور مجھے عزت کا بار پہنایا اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا کیا

طَبُورِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُقَّتْ

میرے نام کے ڈنکے زمین و آسمان میں بجاتے جاتے ہیں

وَشَاوِيثُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَا لِي

اور نیک بختی کے نگہبان اور نقیب میرے لیے ظاہر ہو رہے ہیں

أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمُخَدَّعُ مَتَامِي

میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور میرا مرتبہ (مخدع) خاص مقام ہے

وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرَّجَالِ

اور میرے قدم اولیاء کی گردنوں پر ہیں

وَوَلَدَانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا

اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قطبوں پر حاکم بنایا ہے

فَحُكْمِي نَائِدٌ فِي كُلِّ حَالٍ

پس میرا حکم ہر حالت میں جاری ہے

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا

میں نے خدا تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا

كَخَزْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ

تو وہ سب بل کر رائی کے دانہ کے برابر تھے

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَنُوقَتْنَا

اگر میں اپنا راز آگٹ پر ڈالوں تو

لَخَسِمَاتٌ وَأَنْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي

وہ میرے راز سے بالکل سرد ہو جاتے اور اس کا نام و نشان نہ رہے

لہ مقام غیب الغیب میں مخدع ایک خاص مقام ہے۔ تفصیل کے لیے معنات الامس حالات مشایخ قادریہ ملاحظہ ہوں۔

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَنُوقَ مَيِّتٍ

اگر میں اپنے راز کو مُردہ پر ڈالوں

لَقَامَ رَبِّدْمَةَ الْمَوْلَى تَعَالَى

تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اُٹھ کھڑا ہو

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِ

اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں

لَدَاكَتٍ وَاخْتَفَتِ بَيْنَ الرِّمَالِ

تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے اُل جا پڑے کہ اُن میں اور ریت میں فرق نہ رہے

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارِ

اگر میں اپنا راز یا تو جُستہ دریاؤں پر ڈالوں

لَصَارَ الْكُلُّ غُورًا فِي الزُّوَالِ

تو تمام دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو جائے اور اُن کا نام و نشان نہ رہے

وَمَا مِنْهَا شُرُوفٌ أَوْ دُهُورٌ

مہینے اور زمانے جو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں

تَمُرٌّ وَتَنْقِضُ إِلَّا أَسَاكِلِي

بلا شک وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں

وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي

اور وہ مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر

وَتُعَلِّمُنِي فَمَا قَصْرٌ عَنِ الْجَدَالِ

اور اطلاع دیتے ہیں (اے سنکر کرامات) جھگڑے سے باز آؤ

بِلَادِ اللَّهِ مُدْكِي تَحْتَ حُكْمِي

اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میرا ملک ہیں اور اُن پر میری حکومت ہے

وَوَشِي قَبْلَ تَلْبِي قَدْ صَفَا لِي

اور میرا وقت میرے دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا یعنی میری روحانی حالت پہلے ہی مصفٰی تھی

مُرِيدِي لَا تَخَفُ وَاشْفَانِي

اے میرے مرید! تو کسی چیٹل خورد شیر سے نہ ڈر

عَزُومُهُ وَتَاتِكَ عِنْدَ الْفِتَالِ

کیونکہ میں لڑائی میں اولوالعزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں

مُرِيدِي لَا تَخَفُ اَللّٰهُ مَرِيِي

اے میرے مرید! کسی سے مت ڈر، اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے

عَطَانِي رَفَعَهُ تَلَّتْ اَلْمَكَانِي

اس نے مجھے وہ بلند عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوں کو پا لیا ہے

مُرِيدِي هُمُ وَطَبُ وَاشْطَحُ وَعَنِي

اے میرے مرید! سرشار عشق الہی ہو اور خوش رہ اور بیباک ہو اور خوشی کے گیت گا

وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ وَاَلْاَسْمَعَالِ

اور جو چاہے کر کیونکہ میرا نام بلند ہے

وَكُلُّ وَاَلْمِي تَدَمُّ لَهٗ تَدَمُّ قَرَانِي

ہر ایک ولی کے لیے ایک تدم یعنی مرتبہ ہے اور میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

عَلِي قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

کے قدم مبارک پر ہوں جو آسمان کمال کے بدر ہیں

اَنَا الْجِيْلِيُّ مُحَمَّدِ الدِّينِ اِسْمِي

میں گیلان کا رہنے والا ہوں اور محمدی الدین میرا نام ہے

وَاعْلَامِي عَلِي رَاسِ الْجِبَالِ

اور میرے (فیض و صداقت کے) نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہا رہے ہیں

وَعَبْدُ الْفَتَادِرِ الْمَشْهُورِ اِسْمِي

اور عبد الفتادور میرا مشہور و معروف نام ہے

وَجَدِّي صَاحِبِ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

اور میرے نانا پاک سرکارِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں

●

غوثِ اعظم مین بے شمار سالانہ مددے

قبلہ دیں مددے کھڑے ایمان مددے

نہے سہماتے نورانی نہے فرخندہ پیشانی

علیٰ بیبرت حسن ثانی محی الدین جیلانی

●

دُعَاةُ عَرَبِ الْحَجَرِ

نَسِخَةُ صَحِيحَةٍ

(از حضور پر نور قبلہ عالم قدس سرہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّيُّ وَ

اے بلند شان! اے بزرگ! اے بربار! اے ہمیشہ دانا! آپ میرے پودگار ہیں اور

عِلْمُكَ حَسْبِي فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّيُّ وَنِعْمَ الْحَسْبُ

آپ کا علم مجھے کافی ہے پھر کیا ہی عمدہ پروردگار ہے میرا پروردگار اور کیا ہی اچھا کافی ہے

حَسْبِي تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

میرا کافی آپ جس کو چاہتے ہیں نصرت فرماتے ہیں اور آپ ہی غالب مہربان ہیں

نَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكِّنَاتِ وَ

ہم آپ سے عصمت (بچاؤ) کی درخواست کرتے ہیں تمام حرکات اور سکناات میں اور

الْكَلِمَاتِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ مِنَ الظُّنُونِ وَ

سب کلمات میں اور خواہشوں اور خطرات گمانوں سے اور

الشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ السَّائِرَةِ لِلْقُلُوبِ عَنْ

شوک اور ادھام سے جو دلوں کو مطالعہ

مُطَالَعَةِ الْغُيُوبِ فَقَدْ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَنَزَلُوا

غیب سے ڈھانپ لیتی ہیں پھر یقیناً مومنین ابتلا میں ڈالے گئے ہیں اور بہت سخت

زَلْزَالًا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ رَفَعُوا

ہلاتے کتے ہیں اور جیسا کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں

قُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝

میں روگ ہے کہتے پھر میں کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول نے ہمیں دھوکہ کا وعدہ دیا ہے

فَثَبَّتْنَا عَلَىٰ أَمْوَالِهِمُ الشَّرِيعَةَ ۖ وَانصُرْنَا عَلَىٰ جَمِيعِ

اس وقت ہمیں ثابت قدم رکھیں امور شریعت پر اور ہمیں نصرت دیجیو اور تمام

الْخَلَائِقِ ۖ وَسَخَّرْنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ

مخلوقات کے اور یہ جو سمندر ہے ہمارے تابع کرے جیسا کہ سمندر

لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِابْرَاهِيمَ

موسیٰ علیہ السلام کے آپ نے تابع کر دیا تھا اور جیسا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُدَ

کے تابع کر دی تھی اور جیسا کہ پہاڑ اور لوہا داؤد علیہ السلام کے

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ

تابع کر دیا تھا اور جیسے آندھیاں (تیز ہوائیں) اور تمام جن اور شیطان

لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ وَسَخَّرْتَ الْمَلِكَ وَالْمَلَائِكَةَ

سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیئے تھے اور جیسے تمام ظاہری اور باطنی حکومت

لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ۖ وَسَخَّرَ

ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر دی اور تابع کر لیے

لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمَلِكِ وَ

ہمارے تمام سمندر اپنے جو زمین میں ہیں اور آسمان میں اور ظاہری حکومت

الْمَلَائِكَةِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ ۖ وَسَخَّرْنَا كُلَّ

اور باطنی حکومت اور دنیا کے سمندر اور آخرت کے سمندر اور تابع کرے ہمارے

۱۰ اس جگہ پر دائیں ہاتھ کے سبابہ سے آسمان کی طرف اشارہ کرے۔

۱۱ تین دفعہ پڑھے۔ ۱۲ یہ فقرہ تین دفعہ پڑھے۔

شَيْءٍ يَأْمَنُ بِبَيْدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۝ كَهَيْعَصٍ ۝

تمام اشیاء سے وہ ذات کہ جس کے قبضہ میں تمام اشیاء ہیں کہ ایعص

أَنْصُرْنَا كَهَيْعَصٍ أَنْصُرْنَا فَإِنَّكَ

ہمیں نصرت دیجیے کہ ایعص ہمیں نصرت دیجیے کہ ایعص ہمیں نصرت دیجیے اس واسطے کہ

خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۝ وَاقْتَحْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝

آپ بہترین نصرت فرادوں کے ہیں اور ہمارے حق میں فیصلہ کر دیجیے کیونکہ آپ بہترین فتح کرنے والوں کے ہیں

وَاعْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ

اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اس واسطے کہ آپ بہترین گناہ چھپانے والوں کے ہیں اور رحم فرمائیے ہم پر اس واسطے کہ آپ بہترین رحم

الرَّاحِمِينَ ۝ وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاغِقِينَ ۝ وَاحْفَظْنَا

فرمائے والوں کے ہیں اور رزق دیجیے ہمیں کہ آپ بہترین رزق دینے والوں کے ہیں اور ہمیں محفوظ رکھیے

فَأِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ ۝ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ

اس واسطے کہ آپ بہترین محفوظ رکھنے والوں کے ہیں اور راہ دکھائیے ہمیں اور نجات دیجیے ہمیں ظالمین کی

الظَّالِمِينَ ۝ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ بَرِيحًا طَيِّبَةً كَمَا

قوم سے اور بخش دیجیے ہمارے لیے اپنے پاس سے بہت ہی اچھی ہوا موافق جیسے

هِيَ فِي عِلْمِكَ وَأَنْشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ ۝

وہ اچھی ہوا موافق آپ کے علم میں ہے اور پھیلا دیجیے اس ہوا کو ہم پر اپنی رحمت خاص کے خزانوں سے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا

اے دینے والے! اے دینے والے! اے دینے والے! اے دینے والے! اے دینے والے! اے دینے والے!

وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا

دینے والے! اے دینے والے! اے دینے والے! اے دینے والے! اے دینے والے!

۱۔ تین دفعہ پڑھے۔ ۲۔ اس مقام پر دونوں ہاتھ خضر سے بہا تک بالترتیب بند کر دے۔ ۳۔ اس مقام پر دونوں

بہا کھولے۔ ۴۔ اس مقام پر دونوں سببہ کھولے۔ ۵۔ اس مقام پر دونوں وسطی کھولے۔ ۶۔ اس مقام پر دونوں

خضر کھولے۔ ۷۔ اس مقام پر دونوں خضر کھولے۔ ۸۔ واہدنا تا ظالمین میں دفعہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے منہ پر پھیرے

۹۔ وانشرها رحمتك میں مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھے۔

وَهَابُ يَأْوِهَابُ ۖ وَاحْمِلْنَا بِهَا حِمْلَ الْكِرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ

اے دینے والے! اے دینے والے! اور ہمیں اس ہول کے باعث کشتی پر سوار کر مہربانی کی قسم کا سوار کرنا مع

وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ لَنَا صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا

سلا اور آرام گاہی کے دین میں اور دنیا میں اور ہوں آپ ہمارے ہمراہی ہمارے سفر میں

وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا ۖ وَاطْمِسْ عَلَيَّ وَجُوهَ أَعْدَائِنَا ۖ وَ

اور ہمارے خلیفہ ہلکے اہل و عیال میں اور ہمارے دشمنوں کے منہ پر طمس (بھٹکار) نازل کر اور

امْسِخْهُمْ عَلَيَّ مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ النُّصِيَّةَ وَلَا

ان کو ان کی جگھوں پر مشول کرنے (مسخ شدہ) پس وہ ہمارے ہاں نہ آسکیں اور نہ

الْمَجِيئِيَّ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيَّ أَعْيُنَهُمْ

چل سکیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر طمس نازل کر دیں

فَأَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنِّي يُبْصِرُونَ ۖ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَيَّ

پس وہ راہ سے بھٹک جائیں پس کہاں دیکھیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگھوں

مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ ۖ

پر مسخ کر دیں پس نہ چل سکیں اور نہ واپس جاسکیں لیس لیس لیس

وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ عَلَى صِرَاطِ

راہ پر ہیں تنزیل بہت غالب اور رحیم کی ہے تاکہ آپ اس کی قوم کو

مُسْتَقِيمٍ ۖ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۖ لِتُنذِرَ قَوْمًا

قسم ہے قرآن حکیم کی کہ یقیناً آپ مرسلین سے ہیں اور سیدھی

مَّا أَنْذَرْنَا إِيَّاهُمْ فَهُمْ غَفْلُونَ ۖ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَيَّ

ڈراتیں جن کے آباؤ اجداد نہیں ڈراتے گئے ہیں وہ بہت ہی غافل ہیں خدا کی قسم یقیناً اکثر لوگوں پر ہمارا کہنا صادق

أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ

اور ثابت ہو گیا ہے پس وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے یقیناً ہم نے ان کی گردنوں پر بہت طوق ڈالے ہوتے

لہ وہب لٹا سے لے کر یا وہاب تک تین ترسب پڑھیں۔ لہ اس مقام پر تین تہ پڑھ کر دشمن کا تصور کر کے دایاں ہاتھ زمین پر پڑا

لہ اس مقام پر تین ترسب پڑھ کر بائیں ہاتھ زمین پر مارے۔

ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ بِسْمِ

احسان والا نہیں کوئی معبود مگر وہی اسی کی طرف ہے بازگشت "بِسْمِ اللّٰهِ"

اللَّهِ يَا بَنَّا بَارَكَ حَيْطَانَا ۖ يَسَّ سَقْفَنَا كَهَيْعَصَ ۖ

ہمارا دروازہ ہے "تبارک" ہماری دیواریں ہیں "یس" ہماری چھت ہے "کہیعص"

كَفَايَتَنَا حَمَّ عَسَقٍ ۖ حِمَايَتَنَا ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمْ

ہمارا بچاؤ ہے "حتم عسق" ہماری حمایت ہیں یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ تجھے ان کے شر

اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ ۖ

سے بچالیں گے اور وہ ہمیشہ سميع اور علیم ہے۔ عرش کا پردہ ہم پر ڈالا ہوا ہے

عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاطِرَةٌ ۖ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ

اور اللہ کی آنکھ ہماری طرف دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حول اور اس کی قوت سے

لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۖ

ہم پر کوئی بھی قدرت نہ پائے گا اللہ تعالیٰ ان کے گردا گرد محیط ہیں

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۖ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ

بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں پس اللہ تعالیٰ عمدہ

حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۖ ۝ ۳ بَارَأْنِ وَرَبِّي ۖ

حافظ ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے یقیناً میرا کارساز

اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ۖ

اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ صالحین کا بیڑا اٹھانے والا ہے

۳ تَرَبُّهُ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ

مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۖ ۝ ۴ بَارَأ

اسی پر میں نے آسرا کیا ہے اور وہی عرش بڑے کا رب ہے

۴ اس مقام پر دائیں کی خضر سے لے کر ابہام تک بند کرے۔ ۳ اس مقام پر بائیں کی خضر سے لے کر

ابہام تک بند کرے۔ ۳ فس یكفيكم سے علیم تک تین مرتبہ پڑھ کر بالترتیب کھول دے۔

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ جو اس کے سنگت میں نہ کوئی شے زمین میں دکھ دے سکتی ہے

وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

اور نہ آسمان میں اور وہ سمیع اور علیم ہے اور نہیں کوئی حول اور نہ

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

کوئی قوت مگر اللہ کے ساتھ جو بلند اور بزرگ ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو چیو

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

اس کی بہترین خلق پر (سیدنا) محمد اور ان کی آل اور ان کے اصحاب تمام پر

پہل کاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمَا يَكْفِيكَ وَكَفَاكَ

کفایت کردہ است ترا پروردگار تو، بسیار کفایت می کند ترا از مصیبت

كَفَاكَهَا كَمَا كَفَىٰكَ كَمَا كَانَ مِنْ لُكَاكَ

ایں چنین مصیبت کہ باز گشتن آن یا باز ایستادن آن مانند پوشید شدن است کہ باشد از لشکر در ہم آرد

تَكَرُّكَ كَمَا كَرَّ الْكُرُّ فِي كَبَدِ

و ایں چنین مصیبت کہ حملہ می کند گردن مانند بچپیدن رسن سبضر در سختی و مشقت

تَحْكِي مُشْكِي مُشْكِي كَمَا كَلَّكَ لُكَاكَ

و ایں چنین مصیبت کہ مشابہت دارد آن مصیبت جماعت مسلح پوشان ایاتیر تیزر اما مانند شتر جوان فریب سخت کوش

كَفَاكَ مَا بِي كَفَاكَ الْكَافِ كُرْبَتَهُ

کفایت کند یا کفایت کند ترا پروردگار تو اے دل من از آن چه با من است از رنج و کلفت آن

يَا كَوْكَبًا كُنْتَ تَحْكِي كَوْكَبَ الْفَلَكَ

اے ستاره دل من! کہ مشابہستی ستاره آسمان را

قصیدہ مرضیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

يَا رَبِّ صَلِّ عَلٰی اُمَّ خَتَارٍ مِّنْ مَّضَرَ

اے رب! قبیلہ مضر میں سے جسے تو نے پسند فرمایا ہے اُس پر درود بھیج

وَالْاَنْبِيَاءِ وَجَمِيعِ الرُّسُلِ مَا ذُكِرُوا

اور اُن تمام انبیاء اور رسولوں پر بھی جن کا تو نے ذکر فرمایا ہے

وَصَلِّ رَبِّ عَلٰی الْهَادِي وَشِيعَتِهِ

اور اے رب! درود بھیج ہمارے ہادی اور اُن کی آل پر

وَصَحْبِهِ مَن لَّطِيَ الدِّينَ قَدْ نَشَرُوا

اور صحابہ کرام پر جنہوں نے دین کی مشکلات کو حل کر دیا

وَجَاهِدُوا مَعَهُ فِيْ اَنْدَلُسِ

اور جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور دین میں پوری کوشش کی

وَمَا جَرُّوا وَاَوْلٰئِهِ اَوْ وَاَوْلٰئِهِمْ

اور مساجد بننے اور انہیں جگہ دی اور اُن کی امداد کی

وَبَيَّنُّوا الْاَفْرَاضَ وَالْمَسْنُوْنَ وَاخْتَصَمُوْا

اور جنہوں نے شرائط اور سنون کو بیان فرمایا اور باقی تمام تعلقات کو

لِلّٰهِ وَاَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ فَاَنْتَصَرُوْا

منقطع کر دیا اور ذات الہی سے تعلق پیدا کیا اور کامران ہوئے

أَزْكَىٰ صَالَوَةٍ وَأَنْمَهَا وَأَشْرَفَهَا

پاکیزہ ترین نمونہ اور بزرگ ترین درود ہو

يُعْطَىٰ الْكُونَ مِنْهَا نَشْرُهَا الْعِطْرُ

جس کی خوشبو کی مہک کائنات کو معطر کر دے

مَعْبُوقَةٌ بِعَبِيقِ امْسِكِ زَاكِيَةٍ

پاکیزہ ستوری کی خوشبو سے بسریز ہو

مِنْ طَيِّبَاتِ الرَّجْرِ الرَّضْوَانِ يَنْتَشِرُ

جس کی خوشبو کی مہک جنتِ رضوان میں پھیل جاتے

عَدَّ الْحَصَىٰ وَالْثَرَىٰ وَالرَّمْلَ يَتَّبِعُهَا

(درود شریف کی) تعداد زمین کے سنگریزوں، ریت کے دانوں،

نَجْمُ السَّمَاءِ وَنَبَاتُ الْأَرْضِ وَالْمَدْرَا

آسمان کے ستاروں، زمین کی انگوٹیوں اور ڈھیلوں کے برابر ہو

وَعَدَّ وَزْنَ مِثَاقِيلِ الْجِبَالِ كَمَا

اور تعداد میں وہ پہاڑوں کے تمام ذرات کے مطابق ہو

يَلِيهِ قَطْرُ جَمِيعِ الْمَاءِ وَالْمَطَرُ

جب کہ پانی اور بارش کے تمام قطرات یک جا جمع ہوں

وَعَدَّ مَا حَوَتْ الْأَشْجَارُ مِنْ قَرَفٍ

اور درختوں کے پتوں کی تعداد کے مطابق

وَكَلِّ حَرْفٍ عَدَّ أَيُّتَلَىٰ وَيُسْتَطَرُ

اور ہر حرف جو پڑھا جائے اور لکھا جائے اس کی تعداد کے موافق

وَ الطَّيْرُ وَالْوَحْشُ وَالْأَسْمَانُ مَعَ نَعْمٍ

اور پرندوں، جنگلی جانوروں، پھلیوں، پھوپھوں

يَلِيهِمُ الْجِنُّ وَالْأَمَلَاكُ وَالْبَشَرُ

جن کی تعداد کے ساتھ جنوں، فرشتوں اور انسانوں کی تعداد کے مطابق درود بھیج

وَالذُّرِّ وَالنَّمْلِ مَعَ جَمْعِ الْحُبُوبِ كَذَا

زمین کے ذرات پھینٹنیوں مع دانوں کے

وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالْأَرْيَاشِ وَالقَوْبِ

بالوں (اون کے) پرنندوں کے پروں اور ریشم کے ریشوں کی تعداد کے مطابق درود ہو

وَمَا أَحَاطَ بِهِ الْعِلْمُ الْمَحِيْطُ وَمَا

اور علم محیط کے احاطہ کے مطابق ہو

جَارِيَ بِهِ الْقَتْلُ الْمَأْمُورُ وَالْقَتْلُ

اور تسلیم مامور اور نقد بر ازل کے جاری ہونے کے مطابق ہو

وَعَدَّ نِعْمَاتِكَ التِّيْ مَنْتَ بِهَا

اور ان نعمتوں کی تعداد کے مطابق جو تو نے فراوانی فرمائی ہیں

عَلَى الْخَلْقِ لَأَنْقِ مَذَكَّانُ أَوْ مَذْحِشْرًا

اپنی مخلوق پر جب سے وہ پیدا ہوئی اور جب تک اس کا حشر کیا جائے گا

وَحَوْثٍ مِّتْدَارِ السَّامِي الَّذِي شَرَفَتْ

اور حضور کے مراتب عالیہ کی تعداد کے موافق

بِهِ النَّبِيُّونَ وَالْأَمْلَاكُ وَالْبَشَرُ

جن سے انبیاء، فرشتے اور انسان مشرف ہوئے

وَعَدَّ مَا كَانَ فِي الْأَكْوَانِ يَا سَنَدِي

اے میرے سہارے! ان تمام موجودات کی تعداد کے مطابق جو موجود ہیں

فَمَا يَكُونُ إِلَى أَنْ تَبْعَثَ الصُّورَا

اور وہ جو یوم بعثت تک موجود ہوں گے ان کی تعداد کے مطابق درود ہو

فِي كُلِّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ يَطْرُقُونَ بِهَا

ہر آنکھ کی جھپک میں جب وہ آنکھ جھپکتے ہیں

أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَوْ نَظَرُوا

زمین اور آسمان والے یا جب وہ آنکھ بند کرتے ہیں درود بھیج

مِلَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ مَعَ جَبَلٍ

وسعت آسمان اور زمین مع پہاڑ

وَالْفَرْشِ وَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَمَا حَصَرَهُ

اور فرش، عرش، کرسی اور جن کو وہ محیط ہیں ان کی تعداد کے مطابق درود بھیج

مَا أَعَدَّ مَرَّةً لَّهُ مَوْجُودًا أَوْ جَدَّ مَعَهُ

جس قدر اللہ تعالیٰ موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود فرماتا رہے

رُفُومًا صَالِحَةً لَا تَعْدَادَ وَإِنَّمَا الْيَسْرُ تَنْحَصِرُ

دائمی اور لا تعداد درود شریف جاری رہے

تَسْتَعْرِقُ الْعَدَدَ فِي جَمْعِ الدُّهُورِ كَمَا

جو تمام زمینوں میں انتہائی گنتی کا احاطہ کرے

تُحِيطُ بِالْحَسَدِ لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ

جیسے تیری ذات محیط ہے اور کوئی جز اس سے باہر نہیں ہے

لَا غَايَةَ وَانْتِهَاءَ يَا عَظِيمُ لَهَا

اے با عظمت خدا! ایسا درود شریف جو لامتناہی ہو

وَمَا لَهَا أَمَدٌ يُقْضَى وَيُعْتَبَرُ

اور لامتناہی مدت کے لیے ہو اور قابل اعتبار ہو

مَعَ السَّلَامِ كَمَا قَدْ مَرَّ مِنْ عَدَدِ

وہ درود سلام کے ساتھ مندرجہ بالا تعداد کے ساتھ ہو

رَبِّي وَضَاعِفَهُمَا وَالْفَضْلُ مُنْتَشِرٌ

اے میرے رب! اس کو دوچند کر دے کیونکہ تیرا فضل عام ہے

كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى سَيِّدِي وَكَمَا

اے میرے سردار! جیسے آپ کو پسند ہو اور جیسے آپ راضی ہوں

أَمَرْتَنَا أَنْ نَصَلِّيَ أَنْتَ مُقْتَدِرٌ

جیسے آپ نے ہمیں درود شریف کا حکم دیا ہے آپ ہی صاحب قدرت ہیں

وَعَدَّ اضْعَافٍ مَا تَدْمَرُ مِنْ عَدَدٍ

مذکورہ تعداد سے کئی گنا زیادہ تعداد میں درود بھیج

مَعَ ضِعْفٍ اضْعَافِهِ يَا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ

اور پھر اس تعداد سے کئی گنا زیادہ اے رفیع القدر مالک!

وَ كُلُّ ذَاكَ مَضْرُوبٌ بِحَقِّكَ فِي

اے مالک! تجھے اپنے حق کی قسم! مذکورہ تعداد کو

أَنْفِ اسِ خَلْقِكَ إِنْ تَوَلَّوْا وَإِنْ كَثُرَ

اپنی کم و بیش مخلوق کے سامنےوں کی تعداد سے ضرب دے اور انہی تعداد میں درود بھیج

يَا رَبِّ وَاغْفِرْ لَهَا وَسَامِعِهَا

اے رب! تو بخش دے اس درود شریف کے پڑھنے اور سننے والے کو

وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا إِنَّ مَا حَضَرُوا

اور تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی موجود ہوں

وَالِدَيْنَا وَأَهْلِنَا وَجِيرَتِنَا

اور ہمارے والدین ہمارے کنبے اور ہمارے ہمسایوں کو بخش دے

فَكَفَّلْنَا سَيْدِي لِلْعَفْوِ مُقْتَرِمًا

اے میرے سردار! ہم سب معافی کے محتاج ہیں

وَوَدَّ أَنْ تَكُنَّا ذُنُوبًا لِعَدَدِهَا

اور میں اپنے لئے تعداد گناہ لے کر حاضر ہوا ہوں

لِيَكُنَّ عَفْوُكَ لَا يُبْقِي وَلَا يَدْرَأُ

لیکن حضور کی معافی کسی جسد گناہ کو باقی نہیں چھوڑے گی

يَا رَبِّ أَعْظَمْنَا بِحُرِّكَ

اے رب! ہمارے لیے اجر اور بخشش کو بڑھا دے

فَإِنَّ جُودَكَ بَحْرٌ لَيْسَ يَنْحَصِرُ

کیونکہ تیری سخاوت ایک غیر محدود سمندر ہے

وَ كُنْ لَطِيفًا بِنَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ

اور ہر نازل ہونے والی مصیبت کے وقت تو ہم پر ہمدردان ہو جا

لُطْفًا جَمِيلًا بِهٖ الْاَهْوَالُ تَنْحَسِرُ

اور ایسی ہمدردانی فرما کہ تمام خوف و ہراس اٹھ جاتے

يَا رَبِّ صَلِّ عَلٰى الْمُخْتَارِ مَا طَلَعَتْ

اور اے رب! اپنی رحمت مختار جہاں پر بھیج

شَمْسُ النَّهَارِ وَمَا قَدْ شَعَشَعَ الْقَمَرُ

جب تک سورج چلھٹتا رہے اور چاند روشن ہوتا رہے

ثُمَّ الرِّضَىٰ عَنْ اَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ

اور تو رضی ہو ابو بکرؓ اور عمرؓ

وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عِثْمَانَ مَا حَضَرَ

اور علیؓ اور عثمانؓ سے جو بھی حاضر ہو

ثُمَّ التَّحِيَّةُ وَالسَّلَامُ مَعَ الرِّضَىٰ

اور تیری رضامندی کا دُعا اور سلام ہو

عَنْ جَمِيعِ الْاَلِ وَالْاَزْوَاجِ مُطَهَّرًا

تمام آل پر اور ازواج مطہرات پر

صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَبِّكَ رَزِيًّا اِنَّمَا اَبَدًا

اے رب میرے! ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیج

عَلَيْهِ اَضْعَافَ مَا قَدْ مَرَّ بِتَشْرًا

مذکورہ تعداد سے کئی گنا زیادہ جو ہمیشہ پھیلتا رہے

وَالْاَلِ وَالْاَصْحَابِ وَالْاَتْبَاعِ قَاطِبَةً

اور تمام آل اور اصحابؓ اور تابعینؓ پر درود بھیج

وَ اَخْتِمْ بِخَيْرِنَا اِذْ يَنْتَهَى الْعُمْرُ

اور جب ہماری تمام عمر ختم ہو جائے تو خاتمہ بالخير کر

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

پاک ذات ہے تیرے رب کی وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور سلام ہے رسولوں پر اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو مرتبہ سارے جہانوں کا

مناجات

حضرت غوث الاعظم شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی قدس سرہ

(درمیان احتضام سیفی افتادہ است)

سٹار توتی بیپوش علیہم بکرم	کہ خلق جہاں بسے محتاج ترم
دھر کہ نظر کنتم بہ بنیم ہنرے	جز عیب نہ بینم چو بخود نگرم
بیگانہ زحمت صلاصم و از تقویٰ دو	دام بفریب نفس و شیطان مغرور
سرتا قدم سرقہ عصیان و فحور	لیکن تو رحیمی و کریمی و غفور
گفتم ز سر قیاس بے ہودہ بسے	کردم ز گناہ آنچہ نہ کردہ است کسے

القصہ ندارم اندریں ورطہ جہل!

جز لطف و عنایت تو فرماورے!

ترتیب ادائے وظائف و نوافل

بعد حمد و صلوة برادران طریقت و شاغلان وظائف خاندان حضراتِ چشتیہ بہشتیہ لطیف امید کی خدمت میں التماس ہے کہ خاکسار نے ترکیب جملہ وظائف کو بغرض سہولت و آسانی اردو زبان میں تحریر کر دیا ہے تاکہ آئندہ کسی صاحب کو اس کے زبانی سمجھنے اور حاصل کرنے میں وقت محسوس نہ ہو۔ گو اکثر نسخہ جات وظائف مروج تو ہیں لیکن اہل علم کی جانب سے ہر ایک پر عدم صحت کا وہبہ عائد تھا، لہذا بحال جانفشانی و معرفت ریزی خاکسار نے ترکیب وظائف مذکورہ خاص حضرات سے اس کی نظر فیض اثر سے اصلاح کرا کے افادہ عام کے لیے طبع کرایا ہے۔ ناظرین سے امید ہے کہ خاکسار کو اس محنت کے صلہ میں دعائے خیر سے یاد فرمایا کریں گے۔

ترتیب نماز تہجد

جب نیند سے بیدار ہو، طریق مسنون سے وضو کر کے دو رکعت تہجد الوضو پڑھے۔
 پہلی رکعت میں بعد فاتحہ آیت **وَكُوْنُوْا لِنَفْسِكُمْ جَاوِدًا فَاسْتَغْفِرُوا**
اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّ لِلّٰهِ تَوَابًا رَّحِيْمًا پڑھے اور دوسری
 رکعت میں بعد فاتحہ آیت **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمِ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ**
يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا پھر نماز تہجد بارہ رکعت چھ سلام سے پہلی رکعت میں فاتحہ

زکوٰۃ

اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرے اور وضو بطریق مسنون کر کے غسل کرے۔ دستار بقدر پانچ ہاتھ سر پر باندھے۔ دو چپا دیں، دو بری یا ایک بری بدن پر اوڑھے اور جانماز بستر تین ہاتھ اپنے نیچے رکھے اور یہ تینوں کپڑے نئے ہوں۔ پڑھنے کا مقام علیحدہ ہونا چاہیے کہ نصف ماہ شعبان سے شروع کر کے تا آخر رمضان شریف ختم کرے۔ زکوٰۃ کے دنوں میں روزہ رکھے اور شروع کرنے سے پہلے نماز دو گانہ صحیحہ الوضو ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص تین مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے فاتحہ ایک مرتبہ اور سورۃ اخلاص سات مرتبہ پڑھ کر ثواب اس کا بجناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بحضور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا دے اور واسطے نیت محبت الہی شروع کرے۔ گیارہ گیارہ مرتبہ اکتالیس روز پڑھے اور اول محل کے سجدہ کرے۔ ہر گاہ بکلمہ صلوٰۃ تَمَلَّأُ الْاَرْضَ وَالسَّمَاءَ پڑھیں۔ اس دعا کو سجدہ میں سر رکھ کر پڑھے: صَلَوةٌ تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَاءَنَا وَتُرْكِي بِهَا نَفْسَنَا وَتَجِيئُ بِهَا قُلُوبَنَا۔

محل دوم: وَتَجِلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَتَفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ۔

محل سوم: وَيَجْرِي بِهَا لُطْفُكَ فِي اَمْرِي وَاُمُورِ الْمُسْلِمِينَ۔

جس وقت گیارہ مرتبہ پورا کرے، ہر گاہ مجیب الدعوات ہاتھ اٹھا کر کہے خداوند!

مجھ کو برکت اس درود شریف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں قائم

لے اور ادور و طائف سے اہل مقصد یہی چیز ہے۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ خود اپنی مہربانی سے عطا فرماتے ہیں لہذا نیت خالص رکھتے۔

رکھ اور اس کی محبت نصیب کر اور مشاہداتِ ذاتِ اپنی میں مشرف کر۔ بعد فراغت دستار اور چادر اور جائے نماز تینوں کو اسی حجرے یا دوسرے مکان میں محفوظ رکھتے۔ اشیاءِ جلالی مثل گوشت، ماہی و دال مسور و لہسن و پیاز سے پھینڈ کرے۔ بعد اوائے زکوٰۃ حلوہ یا شیرینی درویشوں میں تقسیم کرے اور اسی طرح دوسری زکوٰۃ میں اکیس مرتبہ روزمرہ پڑھ کر تمام کرے اور تیسری زکوٰۃ میں مع شرائط مذکورہ چہل و یکبار و طیف ہر روز آٹا لیس روز تمام کرے۔

نوافل اشراق

- ۱۔ دو رکعت نماز شکر اللہ: پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ ایک بار آیۃ الکرسی تا خلدون۔ دوسری رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ امن الرسول تا آخر رکوع۔
- ۲۔ دو رکعت نماز استعاذہ: پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ ایک بار سورۃ فلق۔ دوسری رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ ایک بار سورۃ الناس۔
- ۳۔ دو رکعت نماز استخارہ: پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ ایک بار سورۃ الکافرون۔ دوسری رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ تین بار سورۃ اخلاص۔
- ۴۔ دو رکعت نماز استجاب: پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ ایک بار سورۃ الاعلیٰ۔ دوسری رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ پانچ بار سورۃ فتور۔
- ۵۔ دو رکعت نماز شکر النہار: پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ پانچ بار قل شریف۔ دوسری رکعت میں بھی بعد سورۃ فاتحہ پانچ بار قل شریف۔
- ۶۔ دو رکعت نماز حقوق والدین: پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ ایک بار

آیۃ الکرسی تا خیلدون اور تین بار قل شریف۔ دوسری رکعت میں بھی بعد سورۃ فاتحہ ایک بار آیۃ الکرسی تا خیلدون اور تین بار قل شریف۔

ترتیب نماز صلوٰۃ العاشتین

چار رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ یا اللہ ایک سو مرتبہ۔ دوسری رکعت میں یا ارحمن تیسری میں یا رحیم ایک ایک سو مرتبہ، چوتھی میں درود شریف سو مرتبہ پڑھے اور بعد سلام یہ دعا پڑھے: **اللَّهُمَّ زِدْ نُورَنَا وَزِدْ سُورَنَا وَزِدْ حُضُورَنَا وَزِدْ مَعْرِفَتَنَا وَزِدْ طَاعَتَنَا وَزِدْ نِعْمَتَنَا وَزِدْ مَحَبَّتَنَا وَزِدْ عِشْقَنَا وَزِدْ شَوْقَنَا وَزِدْ ذَوْقَنَا وَزِدْ عِلْمَنَا يَا مَوْلَانَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ**۔

ترتیب نمازِ اوّابین بعد نمازِ مغرب

چھ رکعت تین سلام سے: ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص (۴) تین مرتبہ۔ پھر دو رکعت نماز حفظ الایمان پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، مرتبہ اور سورۃ الفلق ایک مرتبہ۔ دوسری میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، مرتبہ اور سورۃ الناس ایک مرتبہ۔ پھر سلام کے بعد سجدہ میں رکھ کر تین مرتبہ یا سحی یا قیوم ثبتتی علی الایمان کہے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر تین مرتبہ درود شریف پڑھے اور دعا مانگے کہ الہی! ساتھ حرمت اپنی ذات کے اور ساتھ حرمت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ساتھ حرمت خاندانِ چشت کے میرا ایسا سلامت رکھ اور مجھے اپنی محبت اور شوق و ذوق عطا فرما!

ادعیہ مبارک شراق

وَمَا شَكَرَ اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَكَ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ

اے اللہ! تحقیق صبح کی میں نے واسطے تیرے نہیں طاقت رکھتا روکنا اس چیز کا کہ بڑا جانوں میں

وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ أَصْبَحْتُ

اور نہیں قدرت رکھتا ہوں میں فائدہ لینے کی اس چیز سے جو امید رکھتا ہوں تیری رحمت سے صبح کی میں نے

مُرْتَهَنًا بِعَمَلِي وَأَصْبَحَ أَمْرِي بِيَدِ غَيْرِي فَلَا فَقِيرَ

گر وہی پڑتا ہوا ہے اپنے عمل میں اور صبح کی میرے کام نے غیر کے ہتھ میں پس نہیں کوئی فقیر

أَفْقَرُ مِنِّي لَا تَشَيْتُ بِي عَدُوِّي وَلَا تَسُوُّ بِي صَدِيقِي

محتاج میرے بڑھ کر نہ خوش کر تو میرے دشمنوں کو اور نہ تکلیف دے تو میرے دوستوں کو

وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَلَا فِي الْآخِرَةِ

اور نہ کر مصیبت میرے دین میں اور دنیا میں اور نہ آخرت میں

وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِي وَ

اور نہ کر تو دنیا کو بڑا بھاری مقصود میرا اور نہ جگہ پہنچنے علم میرے کی اور

لَا تَسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

نہ غالب کر دے مجھ پر وہ شخص جو مجھ پر رحم نہ کرے دنیا اور آخرت میں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُزِيلُ بِهَا النِّعَمَ

اے اللہ! سخیق میں پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے وہ گناہ کہ دور کرے تو سبب ان کے نعمتوں کو

وَمِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُوجِبُ بِهَا النِّقْمَ بِرَحْمَتِكَ يَا

اور ایسے گناہوں سے جو واجب کرے تو سبب ان کے عذاب کو ساتھ اپنی رحمت کے اے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے۔

دُعَا نَمَازِ اسْتِعَاذَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِأَسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَبِكَلِمَاتِكَ

اے اللہ! سخیق میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے بذریعہ اسم بزرگ تیرے کے اور ساتھ کلموں تیرے

الْثَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْهَامَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ

کاملہ سے شرارت خنزندوں سے اور گزندوں سے اور پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے

بِأَسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَّةِ مِنْ شَرِّ

بذریعہ نام تیرے بزرگ کے اور کلمات تیرے کاملہ کے شرارت

عِبَادِكَ وَمِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ بِأَسْمِكَ

تیرے بندوں سے اور شر عذاب تیرے سے اور پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے بذریعہ

الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ

اسم بزرگ تیرے کے اور کلمات کاملہ تیرے کے شرارت ہر شیطان

مَّرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَعُوذُ بِكَ

رانہ سے اور شرارت ہر سرکش عداوتی سے اور پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے

بِأَسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا

بذریعہ اسم بزرگ تیرے کے اور کلمات کاملہ تیرے کے شرارت اس چیز سے جو

يَجْرِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِنَّ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

چلاتے ہیں اس کو رات اور دن تحقیق میرا پروردگار اللہ ہے وہ اللہ جو نہیں کوئی معبود

إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ط

سوا اس کے اسی پر توکل کی میں نے اور وہی ہے پروردگار عرش بزرگ کا

إِلَهِي إِنَّكَ سَلَّطْتَ عَلَيْنَا عَدُوَّ أَبْصِيرًا يَرِينَا بَعِيْبِنَا

اے اللہ! تحقیق تو نے غالب کیا ہم پر ایسے دشمن کو کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے ہم کو ساتھ عبیدوں

هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَاهُمْ اللَّهُمَّ فَأَيُّهُمْ مَنَا

ہمارے کے وہ اور اس کا قبیلہ اس مکان سے کہ نہیں دیکھتے ہم ان کو اے اللہ! پس نا اُمید کرنے تو اس کے ہم سے

كَمَا آتَيْتَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَيْطُهُ مَنَا كَمَا قَنْطَنَهُ مِنْ

جیسا کہ نا اُمید کیا تو نے اس کو اپنی رحمت سے اور نا اُمید کرنے تو اس کے ہم سے جیسا کہ نا اُمید کیا تو نے اس کو

عَقْوِكَ وَأَبْعَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا أَبْعَدْتَ بَيْنَهُ وَ

اپنی بخشش سے اور دُور ہی ڈال دے درمیان ہمارے اور درمیان اس کے جیسا کہ دُور ہی ڈال دی تو نے درمیان اس کے اور

بَيْنَ جَنَّتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط وَبِالْإِجَابَةِ

درمیان جنت اپنے کے تحقیق تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور ساتھ قبول کرنے دعاؤں

جَدِيرٌ ط وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

کے لائق ہے اور نہیں پھرنا گناہوں سے اور نہ طاقت بندگی کی مگر ساتھ اللہ بزرگ بلند کے

دُعَا نَمَازِ اسْتِخَارَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ

اے اللہ! تحقیق میں بھلائی مانگتا ہوں تجھ سے بذریعہ علم تیرے کے اور طاقت مانگتا ہوں تجھ سے

بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ

ساتھ قدرت تیری کے اور مانگتا ہوں میں تیرے فضل بزرگ پس تحقیق تو قدرت رکھتا ہے

وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ط

اور میں نہیں قدرت رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو بہت جانتے والا ہے پوشیدہ باتوں کا

اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا

اے اللہ! تحقیق میں نہیں قدرت رکھتا اپنے نفس کے لیے نقصان دینے کی اور نہ نفع پہنچانے کی اور نہ موت دینے کی

وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشْوَرًا ط اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ

اور زندگی بخشنے کی اور نہ پھر اٹھانے کی اے اللہ! اگر تو جانتا ہے تحقیق ہر

أَمْرٍ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ

کام (جہاں میرے لیے میرے دین میں اور میرے جینے میں اور انجام کار میں پس تقدیر کر تو اسے

لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ

میرے لیے اور آسان کر دے تو اسے میرے لیے پھر برکت ڈال لے تو مجھے اس میں اور اگر تو جانتا ہے تحقیق

كُلَّ أَمْرٍ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

ہر کام بڑا ہے میرے لیے دین اور زندگی اور انجام کار میرے میں

فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ

پس پھیر دے تو مجھ کو اس سے اور پھیر دے تو مجھ کو اس سے اور تقدیر کر دے تو واسطے بھلائی کو

حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

جہاں ہو پھر راضی کر دے مجھ کو ساتھ اس کے ساتھ رحمت اپنی کے اے بڑے مہربان! سب مہربانوں سے

دُعَا نَمَازِ اسْتِجَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ

اے اللہ! کر دے تو دوستی اپنی بہت محبوب چیزوں کی طرف میری اور کر دے

خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي ط اللَّهُمَّ إِذَا أَقْرَرْتَ

ڈر اپنا سخت ڈرانے والا چیزوں سے نزدیک میرے لے بار خدا یا! جب ٹھنڈا کیا تو نے

عِيُونَ أَهْلِ الدُّنْيَا يَدُنْيَاهُمْ فَأَقْرِبْ عَيْنِي بِكَ وَ

دُنیا داروں کی آنکھوں کو ساتھ مال دُنیا کے پس ٹھنڈا کر دے تو میری آنکھوں کو ساتھ اپنے

بِعِبَادَتِكَ وَأَقْطَعْ عَيْنِي لَدَا إِذِ الدُّنْيَا بِأَنْتِ سَكِ

اور ساتھ عبادتِ اپنی کے اور توڑ ڈال مجھ سے لذتیں دُنیا کی ساتھ محبتِ اپنی کے

وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ فِي كُلِّ

اور شوق پیدا کرنے کے اپنے لقا کی طرف اور کر دے اپنی عبادت کو ہر

شَيْءٍ مِّنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ ارزُقْنِي

چیز میں میرے سے اے صاحبِ بزرگی اور عزت کے اے بارِ خدایا! نصیب کر دے مجھے

حُبِّكَ وَحُبِّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبِّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبِّ

محبتِ اپنی اور محبتِ اُن شخصوں کی کہ دوست رکھا انھوں نے مجھ کو اور محبتِ ان کی جو دوست رکھیں گے مجھ کو اور محبتِ

عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبِّكَ أَحَبَّ

ایسے عمل کی جو قریب کر دے مجھے طرف تیری محبت کے اور کر دے محبتِ اپنی کو بہت پیاری

الْأَشْيَاءِ الَّتِي نَأْتِي مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِعَطَشَانِ يَا

چیزوں سے طرف ماری ٹھنڈے پانی سے پیاسوں کے واسطے اے

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَأْسٍ مِّنْ

صاحبِ بزرگی کے اور بڑی عزت والے اے بارِ خدایا! پہلا تو مجھے ساتھ پیالے حضرت محمد

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا أَظْمَأُ

سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسا پلانا کہ نہ ہوں پیاسا میں

بَعْدَهَا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

پہچاس کے کبھی ساتھ رحمتِ اپنی کے اے بڑے مہربان! سب مہربانوں کے۔

دُعَا نَمَازِ شُكْرِ النَّهَارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ حُسْنِ الصَّبَاحِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ

سب تعریف اللہ کو اوپر نیک گزرنے صبح کے اور سب تعریف اللہ کو اوپر

حُسْنِ الْمَسَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ حُسْنِ الْمَبِيتِ

نیک ہونے شام کے اور سب تعریف اللہ کو اوپر لچھا ہونے رات گزرنے کے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا إِذَا مَعَ دَوَامِكَ وَلَكَ

اے بار خدایا! تیرے لیے ہے تعریف ہمیشہ ہونے والی ساتھ ہمیشہ ہونے تیرے کے اور تیرے واسطے

الْحَمْدُ حَمْدًا إِذَا مَعَ خُلُودِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

سب تعریف ہے ایسی تعریف کہ ہمیشہ ہو ساتھ ہمیشگی تیری کے اور تیرے واسطے ہے تعریف

لَا مُنْتَهَىٰ لَهَا دُونَ مِشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

کہ نہیں کوئی انتہا اس کی سوا تیرے ارادے کے اور تیرے واسطے ہے سب تعریف

عِنْدَ كُلِّ ظَرْفَةٍ عَيْنٍ وَتَنْفَسٍ كُلِّ نَفْسٍ الْحَمْدُ

نزدیک ہر پھڑکنے آنکھ کے اور نکالنے ہر سانس کے سب تعریف

لِلَّهِ حَمْدًا إِذَا مَعَ عَدَدِ الْقَطْرَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ

اللہ کو تعریف ہمیشہ ہونے والی گنتی قطروں اور انگوریلوں

وَالْحَجَرِ وَالشَّجَرِ وَالْأُورَاقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَفَاهُ وَ

اور پتھروں اور درختوں اور پتوں کی سب تعریف ثابت ہے واسطے اللہ کے کہ پوری ہو

الصَّلَاةُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

اس کو اور درود نازل ہوا اوپر پیغمبر اس کے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وَسَلِّمْ طَرَا لِهِي بِرَحْمَتِكَ أَرْجُوا فَلَا تَكِنِّي إِلَىٰ نَفْسِي

و سلم کے، اے اللہ! ساتھ رحمت تیری کے امید رکھتا ہوں پس نہ سوچ مجھ کو طرف نفس میرے کے

وَلَا إِلَىٰ غَيْرِكَ ظَرْفَةً عَيْنٍ وَلَا أَقْلًا مِنْ ذَاكَ

اور نہ طرف غیر اپنے کے پھر کئے آنکھ کا قدر اور نہ اس سے کم

وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ بِإِلَّهِ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

اور سنوار دے میرے کاموں تمام کو ساتھ برکت اس کے کہ نہیں کوئی معبود سوا تیرے ایک ہے تو

لَا شَرِيكَ لَكَ وَتُبَّ عَلَيَّ وَأَعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

نہیں کوئی شریک واسطے تیرے اور توبہ قبول کر میری اور بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر

أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ

تو بہت اچھا ہے سب مہربانوں سے اے اللہ! واسطے تیرے ہے سب تعریف اور طرف تیری ہے

الْمُشْتَكَىٰ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

شکایت اور تو ہے مدد مانگا گیا اور نہیں پھرتا اور نہیں طاقت میری توفیق تیری کے

دُعَا نَمَازِ بَرَاتِ عَمِّ الْوَالِدِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

يَا لَطِيفُ الطُّفْلِ بِي وَبِوَالِدِي فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ

اے مہربان! مہربانی کر ساتھ میرے اور ماں باپ میرے کے تمام حالات میں

كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ يَا عَلِيمُ يَا قَدِيرُ وَأَعْفِرْ لِي وَ

جیسا تو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے اے جاننے والے! اے قدرت والے! اور بخش دے مجھ کو اور

لِوَالِدِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

میرے ماں باپ کو سچفیل تو ہر چیز پر قادر ہے۔

نَادِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے

نَادِي عَلِيٍّ مظهر العجائبِ

نذر کر علی (علیہ السلام) کے جو عجائب کے منظر ہیں،

تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي الشَّرَائِبِ

تو اُن کو تمام مصائب میں مددگار پاتے گا

كُلُّهُمْ وَغَمِّ سَيْنِ جَبَلِيٍّ بِذِيؤَيْكَ

ہر سنکر اور غم آپ کی نبوت سے دور ہو جاتے گا

يَا مُحَمَّدُ بُولَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

اے محمد! (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور آپ کی ولایت سے یا علی! یا علی! یا علی!

مقامات اہل بیت

محرم	عمر بن الخطاب	سعید بن جبیر	بابا فرید الدین گنج شکر	شہداء کربلا	حسن بصری	مشاد دینوری	امام زین العابدین
صفر	خواجہ شمس الدین عجمی	خواجہ شمس الدین عجمی	خواجہ شمس الدین عجمی	علم الدین	عبد الواحد زید	یحییٰ مدنی	خواجہ پیر مر علی شاہ
ربیع الاول	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	امام عسکری	امام محمد	قطب الدین بختیار کاکی	کلیم اللہ جہان آبادی	فضیل بن عیاض	شیخ محمد
ربیع الثانی	عزت پاک	ابی اسحاق شامی	نظم الدین دلیا	ناصر الدین			
جماد الاول		امام محمد زکی	سراج الدین	ابراہیم بن وہب			
جمادی الثانی	ابی احمد چشتی	ابی محمد چشتی	غلام محمد علی الدین گوردی	مولانا روم	ابوبکر صدیق	فکر الدین	
رجب	سودود چشتی	امام موسیٰ کاظم	سعید الدین چشتی	حاجی شریف زلفی	امام جعفر صادق	امام اعظم	پیر نذیر گوردی شریف
شعبان							
رمضان		فاطمہ الزہراء	نصیر الدین جیراں دہلوی	علی رضی اللہ عنہ			
شوال			سید الدین حذیفہ	امیر خسرو			
ذی قعدہ	سید غلام سعید الدین	امام حسن	نظام الدین اورنگ آبادی	کمال الدین	حسن محمد		
ذی الحجہ		خواجہ نور محمد	عثمان ذوالنورین	خواجہ جمال الدین جہان			